

# محمد بن قاسم

نسیم حجازی



Ketabton.com

محمد بن قاسم

نسیم حجازی

پہانگیر ٹیک ڈپو

• لاہور • راولپنڈی • ملتان • فیصل آباد • حیدرآباد • کراچی

جملہ حق مصنف محفوظ ہیں

اس کتاب کے کسی بھی حصے کی فوٹو کاپی، سکننگ یا کسی بھی قسم کی  
اشاعت مصنف کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔

آپ کے مشورے اور شکایات کے لئے۔  
E-mail: info@jbdpress.com  
www.jbdpress.com

اشاعت: 2006

شاکست: جہانگیر بک ڈپو  
سرورق: JBD آرٹ سیکشن، لاہور  
قیمت: - 225 روپے



ناشر: عدیل نیاز، آفس: 257 ریلوے گارڈن، لاہور۔ فون: 042-7213318 فیکس: 042-7213319  
سیلز ڈپو: اردو بازار، لاہور فون: 042-7220879، سیلز ڈپو: اردو بازار، کراچی۔ فون: 021-2765086  
سیلز ڈپو: اقبال روڈ نزد کیشی چوک، راولپنڈی۔ فون: 051-5552929  
سیلز ڈپو: نزد یونین فارم سنٹر جامع مسجد صدر، رسالہ روڈ حیدر آباد۔ فون: 0300-3012131  
سیلز ڈپو: اندرون بوہڑ گیٹ، ملتان۔ فون: 061-4781781  
سیلز ڈپو: کوتوالی روڈ، نزد امین پور بازار، فیصل آباد۔ فون: 0333-4469077  
نیاز جہانگیر پرنٹرز، غزنی سٹریٹ اردو بازار، لاہور نے پرنٹ کی۔ فون: 042-7314319

پہلا حصہ  
نامہ امید

- ابوالحسن ..... ۹  
سرانڈیپ کے دربار میں ..... ۳۲  
فتنہ ..... ۴۰  
گنگو اور اس کی سرگزشت ..... ۴۹  
دبیل ..... ۹۱  
قیدی ..... ۱۰۵  
مایا کی پریشانی ..... ۱۱۸  
بہن اور بھائی ..... ۱۳۷  
دوست اور دشمن ..... ۱۵۰  
آخری امید ..... ۱۶۳

حصہ اول

تاریخ

دوسرا حصہ

کھن اور نوجوان سالار

۱۹۹	تقیبہ کا الہی
۲۲۷	بصرہ سے دمشق تک
۲۴۱	سپاہی اور شہزادہ
۲۶۲	پہلی فتح
۲۸۸	سب کا محسن
۳۰۴	صبح کا ستارہ
۳۱۳	سندھ کا نیا سپہ سالار
۳۲۹	داجر داہر کی آخری شکست
۳۴۱	برہمن آباد سے اوردنگ
۳۵۸	اُن کا دیوتا
۳۷۱	سیلمان کا قیدی
۳۷۹	غروب آفتاب

چکا تھا، مجھے اپنے تخیل کے ہر آسمان سے بلند نظر آتی تھی۔

اجاب مجھ سے غم و ہمت کے اس دریائے ناپید کنار کی تصویر کھینچنے کا مطالبہ کر رہے تھے، جس کی موجیں ستاروں پر کندیں ڈال رہی ہیں اور میری مثال اس مصوّر سے مختلف نہیں تھی جس نے اپنے تخیل کے صحرائیں آزادی کا گیت گانے والی ندیاں تک نہ کھینچی ہوں۔

بہر حال مارچ کے اختتام پر میں نے یہ کام شروع کیا اور آج اُن اجاب کی خواہش کو پوری کر رہا ہوں جنہوں نے اس تصویر کے لیے میرا قلم منتخب کیا۔ اگر اس تصویر میں کوئی خوبی نظر آئے تو اُسے محمد بن قاسم سے عقیدت کا پھل یا اُن اجاب کی توجہ کا کرشمہ سمجھے جن کے ذوقِ نظر کی تسکین کا خیال مجھے اس تصویر کے لیے اپنے بہترین رنگ استعمال کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔

اسے کتاب کا پہلا حصہ "ناہید" اس لڑکی کی سرگزشت ہے جس کی آواز نے ہندوستان کی تاریخ بدل دی اور دوسرا حصہ "نوجوان سالار" تاریخ اسلام کے اُس آفتاب کی داستان ہے جو عرب کے اُفق سے نمودار ہوا۔ سندھ کے آسمان پر چمکا اور عین دوپہر کے وقت غروب ہو گیا۔ یہاں پر محترم میر جعفر خاں جمالی کے متعلق کچھ بغیر شاید تعارف نامہ مکمل نہ ہو۔ میر صاحب موصوف اس کتاب کی تکمیل کے لیے مجھے وہ تمام سہولتیں مہیا کرتے رہے جن کی داستان مجاہد" لکھتے وقت میں خواہش کر سکتا تھا اور میں تشکر کے رکھی الفاظ سے احسان مندی کے اُن جذبات کی توہین نہیں کرنا چاہتا جو اُن کے لیے میرے دل میں ہیں۔

نسیم حجازی

کوئٹہ  
۳ اکتوبر ۱۹۴۵ء

## ایوانسن

ہندوستان کے مغربی ساحل کی اہم بندرگاہوں اور جزیرہ سراندیب کے ساتھ ایک مدت سے عربوں کے تجارتی تعلقات چلے آتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں چند عرب تاجر سراندیب میں آباد ہو گئے تھے۔ اور جب عرب میں ایک نئے دین کا چرچا ہونے لگا، تو یہ دین اُن تاجروں کو اپنے آباؤ اجداد کے مذہب کو ترک کرنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ لیکن ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلے میں عربوں کی شاندار فتوحات کی خبریں سن کر اُن کی قومی عصبیت جاگ اُٹھی۔ ایران، عرب کے مقابلے میں ایک متمدد ملک سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے ہندوستان کے باناروں میں عرب کے مقابلے میں ایران کی مصنوعات کی زیادہ قدر تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے حکمران ایران کو ایک طاقتور ہمسایہ خیال کرتے تھے، اور عربوں کے مقابلے میں ایرانی تاجروں کو زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اگر شام سے کوئی قافلہ آجاتا، تو روم کی قدیم سطوت سے مرعوب ہندوستانی عوامیں بھی عربوں سے زیادہ مراعات دیتے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروقؓ کی شاندار

تم وہاں جانا پسند کرو تو میں تمہارے لیے ہر سہولت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوں۔  
عبدالشمس نے جواب دیا: "آپ کے منہ سے میرے دل کی دہنی ہوئی آواز نکلی ہے۔  
میں جانے کے لیے تیار ہوں!"

پانچ عرب تاجروں کے سوا باقی سب عبدالشمس کا ساتھ دینے کے لیے تیار  
ہو گئے۔

دس دن بعد بندرگاہ پر ایک جہاز کھڑا تھا اور عرب اپنے بال بچوں سے رخصت  
ہو رہے تھے۔ عبدالشمس کی بیوی فوت ہو چکی تھی۔ اس نے سینے پر پتھر رکھ کر اپنی اکلوتی  
بیٹی کو الوداع کہا۔ اس لڑکی کا نام سلی تھا۔ شہر میں کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اسے سوانی حسن  
کا بلند ترین معیار تصور نہ کرتا ہو۔ شاہسوار اسے تند و ستر کش گھوڑوں کو دوڑاتے اور بہترین  
تیراک اسے خوفناک آبشاروں میں گودتے اور سمندریں مچھلی کی طرح تیرتے دیکھ کر دم بخود  
رہ جاتے تھے۔

عبدالشمس کی روانگی کے بیس دن بعد کاٹھیاواڑ کے تاجروں کا ایک جہاز  
بندرگاہ پر رکا اور عبدالشمس اور اس کے دو ساتھیوں نے اتر کر یہ خبر سنا لی کہ ان کا جہاز  
اور دوسرے ساتھی سمندر کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں اور اگر کاٹھیاواڑ کے تاجروں  
کا جہاز وقت پر نہ پہنچتا تو وہ بھی چند ساعت اور پانی میں ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد ڈوب  
جاتے۔

راجہ نے اس حادثے کی خبر نہایت افسوس کے ساتھ سنی۔ سندھی  
تاجروں کے سردار کا نام دلپ سنگھ تھا۔ راجہ نے اسے دربار میں بلایا اور تین عربوں  
کی جان بچانے کے عوض اسے تین ہاتھی انعام دیے۔ راجہ کو مہربان دیکھ کر  
دلپ سنگھ اور اس کے ساتھیوں نے وہاں آباد ہونے کا خیال ظاہر کیا۔ راجہ  
نے خوشی سے ان کی یہ درخواست منظور کی اور شاہی خزانے سے ان کے لیے

فتوحات نے عربوں کے متعلق ہمسایہ ممالک کے باشندوں کا زاویہ نگاہ تبدیل کر دیا۔  
سرانڈیپ اور ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آباد ہونے والے وہ تاجر  
جو ابھی تک عرب کے اندرونی انقلاب سے متاثر نہیں ہوئے تھے کفر کے مقابلہ میں  
اسلام کی فتوحات کو ایرانیوں اور رومیوں کے مقابلہ میں عرب کی فتوحات سمجھ کر خوشی  
سے بھولے نہیں جاتے تھے عربوں کے نئے دین سے ان کی نفرت اب محبت میں تبدیل  
ہو رہی تھی۔ اس زمانے میں جن لوگوں کو عرب جانے کا اتفاق ہوا وہ اسلام کی نعمتوں  
سے مالا مال ہو کر واپس آئے۔

عبدالشمس عرب تاجروں کا سرگروہ تھا۔ اس کا خاندان ایک مدت سے  
سرانڈیپ میں آباد تھا۔ وہ اسی جزیرے میں پیدا ہوا، اور اسی جگہ آباد ہونے والے ایک  
عرب خاندان کی لڑکی سے شادی کی۔ جوانی سے بڑھاپے تک اس کے بحری سفر بھی  
سرانڈیپ سے کاٹھیاواڑ تک محدود رہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ عرب میں اس کے  
خاندان کے دوسرے افراد کون ہیں اور کس جگہ رہتے ہیں۔

دوسرے عربوں کی طرح وہ بھی مادروطن کے ساتھ اس وقت دلچسپی لینے لگا۔  
جب یروک اور قادیسیہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کی خبریں دنیا کے ہر گوشے  
میں پہنچ چکی تھیں۔

موجودہ راجہ کے باپ کو انہی خبروں نے عرب کے ایک گناہ تاجر کی طرف دوستی  
کا ہاتھ بڑھانے پر آمادہ کیا تھا۔ اس نے عبدالشمس اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں بلایا  
اور بیش قیمت تحائف دے کر رخصت کیا۔

سنگھ میں اپنے باپ کی وفات کے بعد نئے راجہ نے تخت نشین ہونے ہی عبدالشمس  
کو بلایا اور کہا: "مذت سے ہمارے ملک میں تمہارے ملک کا کوئی تاجر نہیں آیا، میں عرب  
کے تازہ حالات معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہارے نئے دین کے ساتھ دلچسپی ہے۔ اگر

اس کی چیخ پکار کے باوجود سخت بے اعتنائی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ابو الحسن نے پہلے رسی کی سیڑھی پھینکی لیکن جب اس بات کا یقین ہو گیا کہ لڑکی کے ہاتھ پاؤں جواب دے رہے ہیں اور وہ سیڑھی تک نہیں پہنچ سکتی تو وہ کپڑوں سمیت سمندر میں کود پڑا لیکن لڑکی اچانک پانی میں غائب ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں بہت سی کشتیاں جہاز کے گرد جمع ہو چکی تھیں اور جزیرے کے باشندے قہقہے لگا رہے تھے۔

ابو الحسن نے تین مرتبہ غوطہ لگانے کے بعد دل برداشتہ ہو کر سیڑھی کی رسی پکڑ لی اور وہ جہاز پر چڑھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ اُدھر سے اس کا ساتھی چلانے لگا۔ ”وہ ادھر ہے، جہاز کے دوسری طرف۔ وہ ڈوب رہی ہے۔ شاید کسی مچھلی نے پکڑ رکھا ہے۔“

مقامی مردوں اور عورتوں نے پھر قہقہہ لگایا۔ ابو الحسن لڑکی کے جہاز کی دوسری طرف پہنچنے کی وجہ نہ سمجھ سکا۔ تشویش اور حیرانی کے طے جلے جذبات کے ساتھ اس نے جلد ہی پھر غوطہ لگایا اور جہاز کے نیچے سے گزرتا ہوا دوسری طرف پہنچ گیا۔ وہاں کوئی نہ تھا، اُدھر سے اس کا وہی ساتھی شور مچا رہا تھا: ”وہ ڈوب گئی۔ اُسے چھلی نکل گئی۔“

ابو الحسن باپوس ہو کر دوسری طرف پہنچا۔ اس دفعہ لوگوں کے قبضوں میں اس کے ساتھی بھی شریک تھے اور ایک عرب نے کہا: ”آپ آجلیئے! وہ آپ سے بہتر تیر سکتی ہے۔“

ابو الحسن نے کھسیا نہ ہو کر سیڑھی پکڑ لی لیکن ابھی ایک ہی پاؤں اُدھر رکھا تھا کہ کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کر پانی میں گر دیا۔ اس نے سنبھل کر ادھر ادھر دیکھا تو لڑکی تیزی سے سیڑھی پر چڑھ رہی تھی۔

مکان تعمیر کر دادیے۔  
چند سال کی وفادارانہ خدمات کے بعد دلیپ سنگھ راجہ کے بحری بیڑے کا افسر اعلیٰ بنا دیا گیا:

(۲)

اس واقعے کے تین سال بعد ابو الحسن پہلا مسلمان تھا جسے تجارت کا ارادہ اور تبلیغ کا شوق اس دور اُفتادہ جزیرے تک لے آیا۔

کئی ہفتوں کے سفر کے بعد ایک صبح ابو الحسن اور اس کے ساتھی جہاز پر کھڑے سراندریپ کے سرسبز ساحل کی طرف دیکھ رہے تھے۔

بندرگاہ کے قریب مرد، عورتیں اور بچے کشتیوں پر سوار ہو کر اور چند تیرتے ہوئے لوگ جہاز کے استقبال کو نکلے۔ ایک کشتی پر ابو الحسن کو جزیرے کی سیہ نام اور نیم عریاں عورتوں کے درمیان ایک اجنبی صورت دکھائی دی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید اور شکل و صورت جزیرے کے باشندوں سے بہت مختلف تھی۔ دوسری کشتیوں سے پہلے جہاز کے قریب پہنچنے کے لیے وہ اپنی کشتی پر کھڑی دو نمونہ ملاحوں کو جو کشتی کے چبوتلے رہے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہی تھی۔

یہ کشتی تمام کشتیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جہاز کے ساتھ آگئی۔ لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھا اور اس نے بیباک نگاہوں کا جواب دینے کی بجائے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ابو الحسن کے ساتھیوں کو بھی عورتوں کا نیم عریاں لباس پسند نہ آیا۔ حسین لڑکی نے جہاز والوں کی بے اعتنائی کو اپنی توہین سمجھتے ہوئے سراندریپ زبان میں کچھ کہا لیکن جہاز پر سے کوئی جواب نہ آیا۔

اچانک ابو الحسن نے کسی کی چیخ پکار سُن کر نیچے دیکھا کشتی سے آٹھ دس گز کے فاصلے پر وہی خوبصورت لڑکی پانی میں غوطہ کھا رہی تھی اور کشتی واپس

لباس نہیں؟

”نہیں! معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھرنک اسلام کی روشنی ابھی تک نہیں آئی۔“  
یہ کہہ کر ابو الحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کندھوں پر ڈال کر بولا۔ ”اب تم ہمارا  
جہاز دیکھ سکتی ہو۔“

لڑکی نے ابو الحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے  
عریاں بازوؤں اور پنڈلیوں کو جتے میں چھپا لیا۔

ابو الحسن کی پونجی پچاس عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگرے تمام  
گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ”میں یہ خریدوں  
گی۔ اس کی قیمت کیا ہے؟“

ابو الحسن نے کہا۔ ”تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے یہی گھوڑا  
ان سب میں بہترین ہے لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری  
کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے، اسی قدر منہ زور بھی ہے۔“  
لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی۔ ”خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی  
دور کیوں ٹھہرا لیا؟“

ابو الحسن نے جواب دیا۔ ”میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری  
خیال کرتا ہوں۔“

لڑکی نے کہا۔ ”سراندرپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار  
کر رہا ہے۔ جہاز کنارے پر لے چلیے! بیچے راجہ کے امیر البحر خود ہی پہنچ گئے۔“  
دلپ سنگھ عبد اللہ سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی  
استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا۔ ”آپ نے جہاز  
اتنی دور کیوں ٹھہرایا؟“

ابو الحسن جہاز پر پہنچا تو اس کے ساتھی پریشان سے ہو کر جزیرے کی لڑکی  
کے قہقہے سن رہے تھے۔

لڑکی نے ابو الحسن کی طرف دیکھ کر عربی زبان میں کہا۔ ”مجھے آپ کے  
بھیگ جانے کا بہت افسوس ہے۔“

لڑکی کے منہ سے عربی کے الفاظ سن کر سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔  
ابو الحسن نے پوچھا۔ ”کیا تم عرب ہو؟“

لڑکی نے ایک طرف سر جھکا کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کے بالوں  
کا پانی بخوڑتے ہوئے جواب دیا۔ ”ہاں! میں عرب ہوں، ایک مدت سے ہم عربوں  
کے جہاز کی راہ دیکھا کرتے تھے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کیا مال  
لائے ہیں؟“

ایک عرب لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابو الحسن اور اس کے ساتھیوں  
کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ  
رہے تھے۔

لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا۔ ”میں پوچھتی ہوں آپ  
کیا مال لائے ہیں؟ آپ حیران کیوں ہیں۔ کیا عرب عورتیں تیرنا نہیں جانتیں۔  
آپ کہا سوچ رہے ہیں؟ اچھا میں خود دیکھ لیتی ہوں۔“

ابو الحسن نے کہا۔ ”ٹھہرو! ہم گھوڑے لائے ہیں۔ میں تمہیں خود دکھاتا  
ہوں لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے  
عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انھیں النساؤں کا سالباس پہننا  
اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟“

لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا۔ ”کیا یہ النساؤں کا



اور انہیں کہہ سکیں گے۔“

ابوالحسن نے دیکھا۔ وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب عورتوں کا سا تھا۔

ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا۔ ”اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود دیکھ لو، اگر تم اُسے لگام بھی دے سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہو گا۔“

لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اصطبل کی طرف بڑھی۔ باقی سب لوگ بھی اس طرف توجہ دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی، گھوڑے نے اُسے دیکھتے ہی چادہ چھوڑ کر کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو پھسکی دی اور وہ کچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے رستے تڑانے لگے۔

ابوالحسن نے کہا۔ ”ٹھہرو!“ اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رستہ کھول کر باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا۔ ”اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔“

لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا پھل پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے، اُپھلتے اور کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشا بینوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رستہ گھولایا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سرخ پا ہونے کے بعد پھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔

شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا۔ ”عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلی سوار نہ کر سکتی ہو، مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط

ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے جواب دیا۔ ”ان کا خیال تھا کہ شاید جہاز کو بند گاہ پر لگانے سے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کرنا ضروری ہو!“

دلپس سنگھ نے جواب دیا۔ ”ہمارا راج آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔“

لڑکی نے کہا۔ ”میں جانتی ہوں لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ سفید گھوڑا میل ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جتہ اتار کر ایک عرب کے کندھوں پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں پھلانگ لگا دی۔“

(۳)

عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا، انہیں اپنے گھر اور ان کے گھوڑوں کو اپنے اصطبل میں بندہ دی۔ آن کی آن میں پچاس گھوڑوں کے کوئی دو سو خریدار جمع ہو گئے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی دینے لگے۔ دلپس سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے وہ تمام گھوڑے خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلپس سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور اس نے کہا۔ ”ہمارا راج عرب تاجروں سے ملنا اور ان کے گھوڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔“

دلپس سنگھ نے ایلچی سے کہا۔ ”تم جاؤ اور ہمارا راج سے کہو ہم ابھی آتے ہیں۔“

یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا۔ ”ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اُسے یہیں رہنے دیا جائے۔“

ابوالحسن نے کہا۔ ”اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے غدر نہیں لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل نہیں۔ وہ بہت سرکش ہے!“

ایک طرف سے آواز آئی۔ ”نہیں اباجی! ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت

دیا۔ گھوڑے کی رفتار ظاہر کرتی تھی کہ اس سے بہت زیادہ کام لیا جا چکا ہے۔ گھوڑا چند کوس گھنے جنگل میں سے گزرنے کے بعد ایک ٹیلے پر چڑھا اور ایک آبشار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اس سے اوپر جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ابو الحسن گھوڑے سے اُترا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر سلمیٰ کو آوازیں دینے لگا۔ دیر تک تلاش کرنے کے بعد وہ تھک کر آبشار کے قریب ایک پتھر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شام ہونے کو تھی۔ ابو الحسن نے عصر کی نماز ادا کی اور پھر ایک دشوار گزار راستے سے اس مقام تک پہنچا، جہاں سے پہاڑی ندی کا پانی ایک آبشار کی شکل میں نیچے گرتا تھا۔ سلمیٰ چند قدم کے فاصلے پر ندی کے کنارے ایک درخت کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ ابو الحسن کی نظر اُس پر اُس وقت پڑی جب ایک تین چار گز لمبا اور آدمی کی ران کے برابر موٹا اڑدھا گھاس میں سے سرکتا ہوا اُس کے قریب پہنچ رہا تھا۔ ابو الحسن سلمیٰ سلمیٰ! کہتا ہوا بھاگا اور اُس کا بازو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا چند قدم دودرے گیا۔ سلمیٰ نے ہلکی سی چیخ کے ساتھ آنکھیں کھولیں۔ اڑدھا شکار کو جاتا ہوا دیکھ کر بھینکا راتا ہوا لپکا۔ اتنی دیر میں ابو الحسن نیام سے تلوار نکال چکا تھا۔ اڑدھے نے اس کے بالکل قریب پہنچ کر گردن بلند کی۔ ابو الحسن نے ایک طرف کود کر وار کیا، اڑدھے کا سر کٹ کر علیحدہ ہو گیا۔ ابو الحسن نے ندی کے پانی سے تلوار صاف کرتے ہوئے کہا: ”تم بہت بیوقوف ہو! سونے کی یہ کون سی جگہ تھی؟“

سلمیٰ ابھی تک دہشت زدہ ہو کر کانپ رہی تھی۔ وہ بولی: ”میں تھک کر یہاں بیٹھ گئی تھی اور اونگھنے اور نگھنے نہ جانے کس وقت لیٹ کر سو گئی۔ میں یہاں کئی بار اُچی ہوں لیکن ایسا اڑدھا کبھی نہیں دیکھا۔ آپ پہنچ گئے، ورنہ یہ اڑدھا اس طرح ترپنے کی بجائے مجھے نکل رہا ہوتا۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟“

”تم جانتی ہو میں یہاں کیسے پہنچا ہوں۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے یہاں پہنچ کر گھوڑا کیوں چھوڑا“

ہار گئے لیکن اطمینان رکھیے! کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔“  
ابو الحسن نے جواب دیا: ”یہ شرط نہ تھی، انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔“

(۴)

راجہ دیکھنے سے پہلے ہی تمام گھوڑوں کو خریدنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ شاہی خزانے سے جو قیمت ادا کی گئی، وہ عربوں کی توقع سے کہیں زیادہ تھی۔ راجہ نے ابو الحسن سے عربوں کے نئے دین اور ان کی فتوحات کے متعلق کئی سوالات کیے۔ دلیپ سنگھ نے ترجمانی کے فرائض انجام دیے۔ ابو الحسن نے تمام سوالات کا جواب دینے کے بعد دین اسلام کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی۔ راجہ نے اسلام کی بہت سی خوبیوں کا اعتراف کرنے کے بعد ابو الحسن سے دوبارہ ملاقات کا وعدہ لے کر اُسے رخصت کیا۔

جب ابو الحسن اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچا تو اُسے معلوم ہوا کہ سلمیٰ ابھی تک واپس نہیں آئی اور عبدالشمس چند آدمیوں کے ہمراہ اس کی تلاش میں جا چکا ہے۔ ابو الحسن نماز ظہر ادا کرنے کے بعد پریشانی کی حالت میں مکان کے صحن میں ٹہل رہا تھا کہ سفید گھوڑا بے تاجا بھاگتا ہوا اندر آیا۔ گھوڑے کی لگام بھی غائب تھی۔ ابو الحسن نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا: ”خدا معلوم اُسے کیا ہوا۔ یہ گھوڑا سرکش ضرور ہے لیکن گرے ہوئے سوار کو چھوڑ کر آنے والا نہیں اور لگام پاؤں کے نیچے آکر ٹوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا گر پڑنا ممکن نہ تھا میں جاتا ہوں۔“

ابو الحسن نے شیخ عبدالشمس کے خادم سے دوسری لگام منگوا کر گھوڑے کی زدی اور ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر مکان سے باہر نکلا اور گھوڑے کو اس کی مرضی پر چھوڑ

پہنچنے سے پہلے ہی تمھاری تلاش میں نکل گئے تھے۔

چاندنی رات میں ابو الحسن اور سلمیٰ جنگل کو عبور کر رہے تھے۔ سلمیٰ گھوڑے پر سوار تھی۔ ابو الحسن باگ تھامے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں سلمیٰ نے ابو الحسن کے بجر کی سفارش کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کے متعلق سوالات کیے لیکن اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن کی بے اعتنائی بڑھتی گئی۔ سلمیٰ پریشان بھی تھی اور نام بھی، بالآخر اس نے کہا: "آپ کو میری وجہ سے بہت تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتی ہوں۔ آپ مجھے سزا دے لیں لیکن خفانہ ہوں، یہ میرا قصور تھا اور مجھے پیدل چلنا چاہیے تھا۔ میں اتر آتی ہوں۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں۔"

اس دفعہ بھی اس کی توقع کے خلاف ابو الحسن نے سرود مہری سے جواب دیا: "اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم ایک عورت ہو اور کوئی درندہ تمھیں کھا جائے گا تو میں یقیناً اس وقت تمھارے ساتھ چلنا گوارا نہ کرتا۔"

سلمیٰ شکست خوردہ سی ہو کر تھوڑی دیر خاموش رہی۔ پھر بولی: "اگر وہ اڑدیا مجھے نکل جاتا تو آپ کو اس بات کا افسوس ہوتا؟"

"یہ صرف تمھارے لیے ہی نہیں۔ میرے سامنے اگر وہ کسی کو بھی ہلاک کرتا تو مجھے اسی قدر افسوس ہوتا؟"

"آپ نے میرے لیے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟"

"ایک انسان کی جان بچانا مسلمان کا فرض ہے۔"

سلمیٰ دیر تک خاموش رہی۔ دُور سے چند گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور ابو الحسن نے کہا: "دیکھو! وہ ابھی تک تمھیں ڈھونڈ رہے ہیں!"

تھوڑی دیر بعد عبد الشمس اور اس کے ساتھی پہنچ گئے۔ بیٹی کو سلامت دیکھ کر عبد الشمس نے واقعات کی تفصیل میں جاننے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ سلمیٰ کی بانی اڑنے

دیا تھا؟

سلمیٰ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: "میں نے کب چھوڑا۔ وہ مجھے گر کر بھاگ گیا تھا۔ ابو الحسن نے ذرا سخت لہجے میں کہا: "معلوم ہوتا ہے کہ تمھاری تربیت بہت ناقص ماحول میں ہوئی ہے۔ اس لیے تمھارے اخلاق کا معیار وہی ہونا چاہیے جو زمانہ جاہلیت کے عربوں کا تھا لیکن وہ بھی ہزار بڑائیوں کے باوجود مہمان سے جھوٹ بولنا ایک گناہ و نافرمان خیال کرتے تھے اور اس گھوڑے کو خالی واپس آنا دیکھ کر مجھے یہ یقین نہ آتا تھا کہ یہ تمھیں گر کر بھاگ آیا ہے۔ اس کی تربیت میرے اصطبل میں ہوئی ہے۔ یہ سرکش اور مغرور ضرور ہے لیکن دھوکا دینا نہیں جانتا۔ سچ بتاؤ، تم نے اپنے ہاتھوں سے اس کی لگام نہیں اتاری اور اُسے ڈرا دھمکا کر واپس نہیں بھیجا؟"

سلمیٰ نے آنکھیں جھکاتے ہوئے جواب دیا: "اگر آپ بڑا مانتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولوں گی۔"

"تم میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں بڑا بھتا ہوں۔ جن میں ہر مسلمان بڑا جانے گا۔"

"آپ چاہیں تو میں ہر عادت بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کی خوشنودی میرا فرض ہے اور آپ نے تو آج میری جان بھی بچائی ہے۔"

"تمھیں مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں چاہتا ہوں تمھارا خدا تم سے ہو۔ تمھیں صرف وہ چیز پسند کرنی چاہیے جو اُسے پسند ہو اور ہر اس چیز کو ناپسند کرنا چاہیے جو اُسے ناپسند ہو۔ خدا کو عورتوں کا نیم عریاں لباس میں مردوں کے سامنے جانا پسند نہیں۔"

سلمیٰ نے جواب دیا: "لباس تو میں نے آپ کے کہنے سے تبدیل کر لیا تھا؟"

ابو الحسن نے کہا: "لباس سے زیادہ دل کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ خیر اب باتوں کا وقت نہیں۔ شام ہو رہی ہے۔ تمھارے والد بہت پریشان ہونگے۔ وہ گھوڑے کے

الفاظ اور طلحہ کی دل گداز آواز سے عبد الشمس اور اس کے ساتھیوں پر رقت طاری ہو گئی۔ تلاوت کے بعد ابوالحسن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلام کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہوئے انھیں اسلام کی دعوت دی۔ عبد الشمس اور اس کے ساتھی جو ایک مدت سے عربوں کی عظمت کی داستانیں سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کر چکے تھے۔ ابوالحسن کی تبلیغ کے بعد دین اسلام کی صداقت پر ایمان لے آئے۔ کلمہ توحید پڑھنے کے بعد عبد الشمس نے اپنے لیے عبد اللہ کا نام پسند کیا۔

سلی ناریل کے ایک درخت کا سہارا لیے کھڑی یہ تمام واقعات دیکھ رہی تھی۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی اور اپنے باپ سے کہنے لگی۔

”اباجان! کیا خود تین بھی مسلمان ہو سکتی ہیں؟“

عبد اللہ نے مسکراتے ہوئے ابوالحسن کی طرف دیکھا اور وہ بولا ”خدا کی رحمت عود توں اور مردوں کے لیے یکساں ہے“

سلی نے کہا۔ ”تو میرا نام بھی تبدیل کر دیجیے! میں بھی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔“

ابوالحسن نے کہا ”تھارا ایسی نام ٹھیک ہے۔ تم فقط کلمہ پڑھ لو!“

سلی نے کلمہ پڑھا اور سب نے ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کی۔

آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ اچانک موسلا دھار بارش ہونے لگی اور یہ لوگ

ایک کمرے میں چلے آئے۔

تھوڑی دیر بعد بارش ختم گئی اور دلپ سنگھ نے آکر خبر دی کہ ہمارا آج آپ کا

انتظار کر رہے ہیں۔“

ابوالحسن اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر دلپ سنگھ کے ساتھ ہو گیا۔

کے متعلق سن کر اس نے ابوالحسن کا شکریہ ادا کیا:

(۵)

انگے روز علی الصباح عبد الشمس اپنے مکان کی چھت پر نیم خوابی کی حالت میں لیٹے لیٹے اذان کی دلکش آواز سن رہا تھا۔ کچھ دیر انگڑائیاں لینے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں۔ سلی ابھی تک گرمی نیند سو رہی تھی۔ عبد الشمس اسے جگا کر صبح کی ہوا خوری کے ارادے سے نیچے اتر آیا۔

ابوالحسن کے ساتھ شبنم آؤد گھاں پر چادر بن بچھا کر اس کے پیچھے صاف بستہ کھڑے تھے۔ ابوالحسن نے نہایت دلکش آواز میں سورہ فاتحہ کے بعد چند آیات تلاوت کیں۔ قرآن مجید کے الفاظ نے عبد الشمس کے دل میں تلاطم بپا کر دیا۔ اس کے پڑوسی عرب بھی اس کے قریب آکھڑے ہوئے اور اپنی قوم کے نوجوانوں کے نئے طریق عبادت کو دلچسپی سے دیکھنے لگے۔ رکوع و سجود کے بعد دوسری رکعت تک عبد الشمس پر ایک بے خودی سی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ نمازیوں کی طرف چندم اٹھائے قریب پہنچ کر جھکا، رکاو اور جذبات کے بیجان کی کسی رو کے ماتحت بھاگتا ہوا صاف میں کھڑا ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کی تقلید کی۔ نماز کے اختتام پر ابوالحسن نے اٹھ کر عبد الشمس کو گلے لگا لیا۔ عبد الشمس کی آنکھوں میں مسرت کے آئینے چھپک رہے تھے۔ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں نے انھیں مبارک باد دی۔

عبد الشمس نے کہا ”آپ کی زبان میں ایک جادو تھا۔ مجھے کچھ اور سنائیے؟“

ابوالحسن نے جواب دیا ”یہ میری آواز نہ تھی۔ یہ خدا کا کلام تھا۔“

عبد الشمس نے کہا ”بے شک یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سنائیے مجھے!“

ابوالحسن نے اپنے ایک ساتھی طلحہ کی طرف اشارہ کیا۔ طلحہ قرآن کا حافظ تھا۔

عرب اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ طلحہ نے سورہ یسین کی تلاوت کی۔ قرآن مجید کے مقدس

پڑے۔ کانپتے ہوئے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ”آپ پرسوں جا رہے ہیں؟“

”ہاں! لیکن تمہیں کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟“

”کچھ نہیں! کچھ بھی تو نہیں!!“

آنسوؤں میں جھکی ہوئی مسکراہٹ ابو الحسن کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے کہا۔ ”سلمیٰ! تم ابھی تک وہی ہو۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود میں تم میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتا۔ تمہیں اب نامحرموں کے سامنے آنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان لڑکی کا سب سے بڑا زیور حیا ہے۔“

”آپ اب تک مجھ سے خفا ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں لباس تبدیل کر چکی ہوں، نماز پڑھ چکی ہوں۔ پرسوں سے میں نے گھر کے باہر پاؤں نہیں رکھا۔ کیا یہ بھی ضروری ہے کہ میں ایک مسلمان کے سامنے بھی نہ آؤں؟“

”ہاں! یہ بھی ضروری ہے۔ میں طلحہ کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہ تمہیں ایک مسلمان عورت کے فرائض سے آگاہ کرے گا۔ تمہیں اسلام کی صحیح تعلیم دے گا۔“

سلمیٰ نے جواب دیا۔ ”مجھے کسی اور تعلیم کی ضرورت نہیں۔ آپ جو حکم دیں گے، میں مانوں گی۔ آپ کے اشارے پر میں پہاڑ پر سے کودنے اور ہاتھ پاؤں باندھ کر سمندر میں پھلانگ لگانے کے لیے تیار ہوں۔“

ابو الحسن نے کہا۔ ”سلمیٰ! اگر تمہیں میری خوشی اس قدر عزیز ہے تو سنو! میں اس کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا کہ تم سر سے پاؤں تک اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ سچے مسلمان کی ہر نیت اور ہر فعل کو کسی انسان کی خوشی نہیں بلکہ خدا کی خوشی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد تم ایک ایسی دنیا میں پاؤں رکھ چکی ہو، جو ایک انتہائی جدوجہد کا گھر ہے اس میدان میں کودنے والے کے دل میں آنسوؤں اور اور آہوں کے لیے

دوپہر کے وقت ابو الحسن واپس آیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ راجہ اور بعض سرداروں نے ادبھی عربی گھوڑے خریدنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ اس لیے ہمارا جہاز چوتھے روز واپس روانہ ہو جائے گا۔“

عبداللہ (عبدالشمس) نے انہیں کچھ دن اور ٹھہرنے کے لیے کہا لیکن ابو الحسن نے جلد واپس آنے کا وعدہ کر کے اجازت حاصل کر لی۔“

عبداللہ نے کہا۔ ”ابھی ہمیں اسلام کے متعلق بہت کچھ جانا ہے۔ اگر آپ طلحہ کو یہاں چھوڑ جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔“

ابو الحسن نے طلحہ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ”اگر یہ پسند کریں تو میں انہیں خوشی یہاں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔“

طلحہ نے یہ دعوت خوشی سے قبول کر لی۔

اگلے دن ابو الحسن کے ساتھی جہاز کے بادیوں کی مرمت اور خورد و نوش کا ضروری سامان خریدنے کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ دلپ سگھ اور عبداللہ نے مشورہ کرنے کے بعد ابو الحسن نے اپنے تمام سرمائے سے آٹھ ہاتھی اور باقی جہاز تاریل سے بھر لیا۔

شام کے وقت ابو الحسن عبداللہ کے باغیچے میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو سلمیٰ کھڑی تھی۔ وہ چہرہ جو دو دن پہلے مسرتوں کا گوارہ تھا۔ اب حزن و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ آہ نکلیں جو اندھیری رات کے ستاروں سے زیادہ دلغزب اور چمکی تھیں، اب پُر نم تھیں۔

اس نے قدرے بے اعتنائی سے پوچھا۔ ”سلمیٰ! تم یہاں کیا کر رہی ہو؟“

ابو الحسن کا دکھاپن دیکھ کر ضبط کی کوشش کے باوجود اس کے آنسوؤں

ابوالحسن نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بہت زیادہ باتیں کر چکا ہے۔ اس نے لہجے کو ذرا ترمیم بنا لیا کہ: ”سلمی جاؤ! اگر عرب کی تمام عورتیں تمہارے جیسی نیک دُعائیں کرتیں تو اسلام کی روشنی عرب کی حدود سے باہر نہ نکلتی“

سلمی نادم سی ہو کر واپس ہوئی۔ بار بار اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے۔  
”میں بہت بے وقوف ہوں۔ میں نے یہ کیوں کہا۔“

مختصر سی دیر کے بعد وہ کوٹھے پر بیٹھی۔ اُفتی مغرب پر گرم لوہے کے سُرخ تھال کی طرح چمکتا ہوا سورج پانی میں غوطہ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں ہلکے ہلکے بادل شفق کی سُرخ کی عکاسی کر رہے تھے۔ مرطوب ہوا کے جھونکے نایل کے پتوں پر ایک دلکش راگ چھیڑ رہے تھے۔ اور گھر کے تمام مناظر سے ہٹ کر سلمیٰ کی نگاہیں سمندر کے کنارے عربوں کے جہاز پر مرکوز ہو گئیں۔ دل میں ہیجان بپا ہوا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دُعائی ”اے خشکی اور تری کی مالک! مجھے ایک مسلمان عورت کا ایمان دے۔ مجھے سیدھی راہ دکھا اور جب وہ واپس آئیں تو مجھے دیکھ کر خفا نہ ہوں۔“

(۷)

تیسرے دن آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ سلمیٰ کوٹھے پر بیٹھ کر حسرت بھری نگاہوں سے سمندر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ساحل سے دُور ابوالحسن کا جہاز موجوں پر رقص کرتا نظر آ رہا تھا۔ ہوا کے چند تیز جھونکے آتے اور بارش ہونے لگی۔ بارش کی تیزی کے ساتھ اس کی نگاہوں کا دائرہ محدود ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ جہاز آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ضبط کی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو پھلک پڑے اور رخساروں پر بہتے ہوئے بارش کے قطروں کے ساتھ مل گئے۔ سلمیٰ دیر تک ہاتھ اٹھا کر یہ دُعاد ہراتی رہی۔ ”میسے مولیٰ! اے سمندر کی سرکش لہروں سے محفوظ رکھو!“

لیغیچے میں ابوالحسن سے آخری ملاقات کے بعد سلمیٰ کے خیالات اور عادات میں

کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے مسلمان کے لیے زندگی ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے پہلو میں وہ دل ہونا چاہیے جو خدا کی راہ میں زندگی کی بلند ترین خواہشات کو بھی قربان کرنے سے نہ گھبرائے۔ اس کا سینہ تیروں سے چھلنی ہو لیکن زبان سے آہ تک نہ نکلے۔ تم سب جاؤ تو شاید یہ دیکھ کر حیران ہو گی کہ مسلمان عورتیں اپنے شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کو جہاد پر مخصت کرتی ہیں لیکن ان کی آنکھ میں آنسو تو درکنار پیشانی پر نشکں تک نہیں آتی اور یہ صرف اس لیے کہ وہ خدا کی خوشی کو دنیا کی ہر خوشی پر ترجیح دیتی ہیں۔ اگر تم نے مجھے خوش کرنے کے لیے اسلام قبول کیا ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ تم اسلام کو سچھی نہیں۔ اگر خدا کو خوش کرنا چاہتی ہو تو گھر جاؤ میں طلحہ کو بھیجتا ہوں، وہ آج ہی تمہیں قرآن پڑھانا شروع کر دے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں واپس آؤں تو تم میری پیرا کی کا امتحان لینے کے لیے ساحل سے ایک میل کے فاصلے پر سمندر میں میرا استقبال نہ کرو اور مجھے جنگلوں اور پہاڑوں میں تمہیں تلاش نہ کرنا پڑے۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو گی کہ بعد اشمس کا نام تبدیل ہونے کے بعد اس کے گھر کا نقشہ بھی بدل چکا ہے اور اس چاد دیواری میں ایک مسلمان لڑکی پرورش پا رہی ہے۔“

سلمیٰ نے پر امید ہو کر پوچھا: ”آپ کب آئیں گے؟“

”میں دن معین نہیں کر سکتا لیکن ارادہ یہی ہے کہ گھوڑے خریدتے ہی وہاں سے واپس آ جاؤں لیکن اگر مجھے جہاد کے لیے کہیں جانا پڑا تو ممکن ہے کہ دوبارہ نہ آسکوں۔“ سلمیٰ کے چہرے پر پھر ایک بار اُداسی چھا گئی اور اس نے آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے کہا: ”نہیں، یوں نہ کیسے! خدا آپ کو واپس ضرور لائے گا۔“

”تم دُعائے کرتی رہو گی تو انشاء اللہ میں ضرور آؤں گا۔“

سلمیٰ نے کہا: ”دُعایا؟ آپ کیا کہتے ہیں اگر میری دُعایا قبول ہو سکتی تو آپ جانے“

کا ارادہ کیوں کرتے؟“

والدہ بنیہ جہاز اُسے دور سے ابوالحسن کی آمد کا پیغام دیتا۔ وہ اپنے خادم کو دہلی میں کئی کئی بار بندرگاہ کی طرف بھیجتی۔ جب وہ مایوس نگاہوں کے ساتھ واپس آتا تو وہ بے قرار سی ہو کر پوچھتی۔ "تم نے اچھی طرح دیکھا۔ ممکن ہے ان میں کوئی عرب بھی ہو؟" خادم جواب دیتا۔ "وہ فلاں جگہ سے آیا ہے۔ میں پوری طرح پھان بین کر کے آیا ہوں ان میں ایک بھی عرب نہ تھا۔"

وہ امید و بیم کے سمندر میں غوطے کھانے والے انسان کی طرح تنکوں کا سہارا لیتی اور کہتی۔ "تم نے تلاخوں سے پوچھا ہوتا۔ ممکن ہے انہوں نے راستے میں کسی بندرگاہ پر پیر لوں کا جہاز دیکھا ہو یا ان کے متعلق سنا ہو؟"

خادم پھر بھاگتا ہوا بندرگاہ جاتا۔ سلمیٰ کی اُمسنگیں پرانی امیدوں کے کھنڈروں پر نئی امیدوں کا محل کھڑا کر لیتیں۔ بوڑھے نوکر کا افسردہ اور ملول چہرہ پھر وہی حوصلہ شکن خبر دیتا اور سلمیٰ کی امیدوں کا محل دھڑام سے نیچے آڑھتا۔ ہر صبح وہ اپنے دل میں امید کے چراغ روشن کرتی۔ جب سورج سمندر کی لہروں میں چھپ جاتا تو یہ چراغ بھی بجھ جاتا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں آہوں اور آنسوؤں میں تبدیل ہو جاتیں۔

بڈت تک طلحہ یا اپنے باپ میں سے کسی پر اس نے اپنے دل کا حال ظاہر نہ ہونے دیا لیکن ایک شام سلمیٰ کے طرز عمل نے ان دونوں کو شبہ میں ڈال دیا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، طلحہ اور عبداللہ برآمدے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلمیٰ ایک کمرے کے درپیکے کے سامنے بارش کا منظر دیکھ رہی تھی۔ باتوں باتوں میں ابوالحسن کا ذکر آگیا۔ عبداللہ نے کہا۔ "خدا جانے وہ اب تک کیوں نہیں آئے۔ آٹھ مہینے ہو گئے ہیں۔" طلحہ نے کہا۔ "اگر خدا نے اُسے سمندر کے حوادث سے محفوظ رکھا ہو تو اتنی دیر تک اس کے واپس نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہیں جہاد پر چلا گیا ہے۔"

عبداللہ نے کہا۔ "آج مجھے دلپسنگہ نے بتایا ہے کہ یہاں سے کوئی تیس میل

بہت بڑی تسبیہی آپجی تھی۔ اُسے ابوالحسن کی بے اعتنائی کا بے حد ملال تھا۔ تاہم اُسے انسانیت کا بلند ترین معیار تصور کرتے ہوئے وہ اس بات پر ایمان لایا کہ اچھی تھی کہ اس کی جو عادت ابوالحسن کو ناپسند ہے۔ یقیناً بڑی ہوگی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ کسی کے سامنے بے حجاب ہونے کی جرأت نہ کی۔

جب ابوالحسن اور اس کے ساتھی بندرگاہ کی طرف روانہ ہوئے تو اس نے اپنے دل سے یہ سوال کیا۔ کیا اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟" ابوالحسن کی باتیں یاد آتیں تو اس کے دل میں کبھی یا حسن کی تادیکیاں مسلط ہو جاتیں اور کبھی اُمید کے چراغ چمک اُٹھتے۔

عبداللہ کی آواز سن کر وہ نیچے اتری۔ بوڑھے باپ نے سوال کیا۔ "سلمیٰ! تم بارش میں اوپر کیا کر رہی تھیں؟"

"کچھ نہیں آبا جی! میں....." سلمیٰ کوئی بہانہ کرنا چاہتی تھی لیکن اسے ابوالحسن کی نصیحت یاد آگئی اور وہ بولی۔ "میں ان کا جہاز دیکھ رہی تھی۔"

عبداللہ نے کہا۔ "وہ تو دیر ہوئی جا چکے۔ جاؤ تم کپڑے بدل آؤ! طلحہ ابھی آجائے گا۔ ہم اس سے قرآن مجید پڑھیں گے۔"

سلمیٰ نے پوچھا۔ "آپ انہیں کہاں چھوڑ آئے؟"

"وہ راستے میں زید کے گھر ٹھہر گیا تھا۔ ابھی آجائے گا۔"

چند دنوں میں طلحہ کی تعلیم کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلمیٰ اپنی ہر بات میں ابوالحسن کی خوشی کو مقدم سمجھنے کی بجائے خدا کی رضا کو مقدم سمجھنے لگی۔ تاہم ہر نماز کے بعد اس کی سب سے پہلی دعا ابوالحسن کے لیے ہوتی تھی۔

پھر مہینے گزر گئے ابوالحسن کی کوئی خبر نہ آئی۔ سلمیٰ کی ادا سی بے چینی میں تبدیل ہونے لگی۔ وہ صبح و شام مکان کی چھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھتی۔ بندرگاہ کی طرف آئے

کس نے بتایا؟ اور وہ.....! آپ خاموش کیوں ہیں؟ خدا کے لیے کچھ کیسے ایسے بڑی سے بڑی خبر سننے کے لیے تیار ہوں۔ ہچکچوں اور آہوں کی شدت اس کی آواز کے تسلسل کو توڑ رہی تھی۔

عبداللہ نے پریشان سا ہو کر جواب دیا۔ ”بیٹی! ہم مالابار کے ایک جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔ آج دلپ نے مجھے بتایا تھا۔“

لیکن سلمیٰ نے باپ کا فقرہ پورا نہ ہونے دیا۔ ”نہیں نہیں! آپ مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ مجھے جھوٹی تسلیاں نہ دیں!“ یہ کہہ کر سلمیٰ ہچکیاں لیتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔

بوڑھے باپ کچھ سمجھا کچھ نہ سمجھا۔ وہ طلحہ کی طرف معذرت طلب نگاہوں سے دیکھتا ہوا اٹھا اور سلمیٰ کے کمرے میں چلا گیا۔ سلمیٰ منہ کے بل بستر پر لیٹی ہچکیاں لے رہی تھی۔ بوڑھے باپ کا دل بھرا آیا اور اس نے قریب بیٹھ کر سر پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا۔

”بیٹی کیا ہو گیا تمہیں؟“

سلمیٰ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنسو پونچھے اور ہچکیاں ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ ”کچھ نہیں اباجان! مجھے صاف کیجئے! آئندہ آپ مجھے کبھی روتے نہیں دیکھیں گے۔“

”لیکن روتے کی کوئی وجہ بھی تو ہو؟ ایسی خبریں تو ہم روز سن کر تے ہیں۔ آئندہ مالابار کا ایک جہاز غرق ہو جانے کی خبر میں کیا خصوصیت تھی؟“

سلمیٰ نے غور سے اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھا اور تدرے مطمئن ہو کر بولی۔

”آپ سچ کہتے ہیں؟“

عبداللہ نے برہم ہو کر کہا۔ ”آئندہ مجھے جھوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک تم نے میری کسی بات پر شک نہیں کیا۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آتا تو طلحہ سے پوچھ لو!“

سلمیٰ نے ندامت سے سر جھکا لیا اور کہا۔ ”اباجان! میں معذرت چاہتی ہوں۔“

کے فاصلے پر مالابار کا ایک جہاز غرق ہو چکا ہے۔ صرف ایک کشتی پانچ آدمیوں کو لے کر یہاں پہنچی ہے۔“

طلحہ نے پوچھا۔ ”اس پر کتنے آدمی تھے؟“

”شاید بیس تھے۔ جہاز بہت بڑا تھا اور اس پر تجارت کا بہت سا مال تھا۔“

”جہاز کیسے غرق ہوا؟“

”ملاح منزل کو قریب دیکھ کر بے پرواہ ہو گئے اور جہاز ایک چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔“

سلمیٰ پاس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنے خیالات میں محو تھی۔ اس نے فقط آخری فقرہ سنا اور ایک ثانیہ کے لیے اس کی رگوں میں خون کا ہر قطرہ منجمد ہو کر رہ گیا۔

برآمدے سے پھر عبداللہ کی آواز آئی۔ ”یہ چٹانیں بہت خطرناک ہیں۔ ہر سال ان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی جہاز غرق ہو جاتا ہے۔ یہاں کے باشندوں کا خیال ہے کہ یہ چٹانیں سمندر کے دیوتا کے مندر ہیں۔“

یہ سنتے ہی سلمیٰ کی رگوں میں ایک غیر معمولی ارتعاش پیدا ہوا۔ وہ اٹھی اور اپنے کمرے سے نکل کر باپ کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ اس کا دہشت زدہ چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر باپ نے پوچھا۔ ”بیٹی! تمہیں کیا ہوا؟“

کچھ دیر جذبات کی شدت کی وجہ سے سلمیٰ کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رنج و کرب کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں۔ ”جو کچھ تم مجھ سے چھپانا چاہتے ہو میں لکھی چکی ہوں۔“

طلحہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ”کیوں بیٹی کیا بات ہے؟“

سلمیٰ کے بچنے ہوئے ہونٹ کپکپائے۔ پتھرائی ہوئی آنکھوں پر آنسوؤں کے باریک پر دے چھا گئے۔ اس نے کہا۔ ”بتائیے! کب ڈوبائے گا جہاز؟“ آپ کو



داخل ہوا۔

ابوالحسن نے کہا۔ ”اوہو تم! مجھے افسوس ہے کہ اس وقت میری دہریہ تمہیں بارش میں بھیگنا پڑا۔“

سلمیٰ نے اپنے دل میں کہا۔ ”کاش تم یہ جان سکتے کہ اس بارش کی بوندیں کس قدر خوش گوار ہیں۔“ اور پھر ابوالحسن سے مخاطب ہو کر بولی۔ ”چلیے!“

برآمدے میں طلحہ اور عبد اللہ ابوالحسن کی آواز سن کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ عبد اللہ نے آواز دی:

”کون! ابوالحسن!“

ابوالحسن نے برآمدے کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ ”جی ہاں! میں ہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے خواہ مخواہ اس وقت آپ کو تکلیف دی۔“

طلحہ نے پوچھا۔ ”کیسے خیریت تو ہے نا! آپ کے ساتھی کہاں ہیں؟“

”ہاں! خیریت ہے۔ میں ان سب کو جہاز پر چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ راستے میں ایک دفعہ بھسلا دو مرتبہ ندی میں گر ا، پانچ مکانات کو آپ کا مکان سمجھ کر آوازیں دیں۔ ایک گھر کے چند فرض شناس کتوں نے میرا استقبال کیا۔“

عبد اللہ نے سلمیٰ کو آواز دی۔ سلمیٰ ابھی بے خودی کے عالم میں برآمدے سے باہر کھڑی تھی۔

آج بھی بارش کے قطرے اس کے رُخساروں کے آسودہ ہو رہے تھے لیکن یہ خوشی کے آسودہ تھے۔ باپ کی آواز سن کر وہ چونکی اور بھاگتی ہوئی برآمدے میں داخل ہوئی۔

”کیا ہے ابا جان؟“

”بیٹی جاؤ! ان کے لیے کھانا اور کپڑوں کا جوڑا لے آؤ اور باقی مہمانوں کے لیے

میں سمجھی تھی... کہ شاید آپ عربوں کے جہاز کا ذکر کر رہے تھے۔“

”بیٹی! کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ خدا نخواستہ اگر میں ان کے جہاز کے متعلق ایسی خبر سنا تو مجھے تم سے کم صدمہ ہوتا؟“

شام کے کھانے کے بعد طلحہ اور عبد اللہ کا خادم عشاء کی نماز ادا کر رہے تھے۔ خادمہ برتن صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کسی نے باہر کے پھاٹک پر دستک دی، سلمیٰ نے خادمہ سے کہا۔ ”شاید زید اور قیس آئے ہیں۔ تم نے باہر کا دروازہ بند تو نہیں کر دیا تھا؟“

خادمہ نے جواب دیا۔ ”ایسی بارش میں کون آسکتا ہے۔ میں ابھی کواڑ بند کر کے آئی ہوں۔ اگر انھیں آنا ہوتا تو مغرب کی نماز کے لیے نہ آتے؟ اور ہاں زید تو بیمار ہے، قیس بے چارہ بوڑھا۔ اس نے گھر ہی پر نماز پڑھ لی ہوگی۔“

”لیکن پھر بھی کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے۔“

”یہ آپ کا دہم ہے۔ دروازہ ہوا سے ہل رہا ہے۔“

”نہیں کسی کی آواز بھی سن رہی ہوں۔ شاید...! میں جاتی ہوں۔“

سلمیٰ کا دل دھڑک رہا تھا۔ تاریکی میں ایک قدم آگے دیکھنا محال تھا۔ وہ بجلی کی چمک میں درختوں سے بچتی ہوئی پھاٹک تک پہنچی۔

پھاٹک کے باہر کوئی آہٹ نہ پا کر اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ یا بوس ہو کر واپس ہونے کو تھی کہ کسی نے دروازے کو زور سے دھکا دیتے ہوئے آواز دی۔ ”کوئی ہے؟“

ایک آن کے لیے سلمیٰ کے پاؤں زمین سے پیوست ہو کر رہ گئے۔ پھر وہ لپک کر آگے بڑھی اور دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کے سامنے ایک بلند قامت انسان کھڑا تھا۔

دروازہ کھلتے ہی اس نے سوال کیا۔ ”کیا یہ عبد اللہ کا گھر ہے؟“

پیشتر اس کے کہ سلمیٰ کوئی جواب دیتی۔ بجلی بجی اور ابوالحسن سلمیٰ کو پہچان کر لاندہ

ابوالحسن کو دنیا کی ہر نعمت میسر تھی۔ اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اُسے اپنے بیوی بچوں سے بے انتہا محبت تھی لیکن یہ محبت اُسے گھر کی چار دیواری میں پابند سلاسل نہ رکھ سکی۔ وہ قریباً ہر سال فریضہ حج ادا کرنے کے لیے ایک طویل بحری سفر کی کٹھن منازل طے کرتا۔ پانچ دفعہ اس نے ایشیائے کوچک اور شمالی افریقہ میں جہاد کرنے والی افواج کا ساتھ دیا۔

ہر بار جہاد اور حج سے واپس آنے کے بعد وہ فنونِ حرب اور مذہبی تعلیم میں اپنے بچوں کا امتحان لیتا۔ خالد تیراندازی، شاہسواری، تیغ زنی اور جہاد رانی کی تعلیم میں اپنے باپ کی بہترین توقعات پوری کر رہا تھا۔

ناہید بارہ سال کی عمر تک تیراندازی کے علاوہ سرکش گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھ چکی تھی۔ پڑھنے لکھنے میں بھی طلحہ کو اس کی غیر معمولی ذہانت کا اعتراف تھا۔ راجہ کے ساتھ ابوالحسن کے تعلقات بہت خوشگوار تھے۔ ہمارا فی ایک مدت سے سلمیٰ کی سہیلی بن چکی تھی۔ وہ ہفتے میں ایک دو مرتبہ پاکی بھیج کر ماں اور بیٹی کو اپنے محل میں بلاتی۔ راجہ کماری ناہید سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی۔ کہ خود بھی کبھی کبھی ابوالحسن کے گھر چلی آتی۔

راجہ کماد عمر میں خالد سے چار سال بڑا تھا لیکن پھر بھی وہ خالد کو ہر بات میں قابلِ تقلید سمجھتا۔

ایک دن دلپ سنگھ نے راجہ کے سامنے فنونِ حرب میں خالد کی غیر معمولی استعداد کی تعریف کی۔ راجہ نے پوچھا۔ ”کیا وہ ہمارے راجہ کا مقابلہ کر سکے گا؟“ دلپ سنگھ نے جواب دیا۔ ”ہمارا راجہ ہمارے راجہ کا نازوں کے پلے ہوئے

ہیں اور وہ ایک سپاہی کا بیٹا ہے۔“  
”لیکن وہ بہت چھوٹا ہے۔“

بھی کھانا تیار کرناؤ! میں انھیں بلانے کے لیے جاتا ہوں۔“  
ابوالحسن نے کہا۔ ”کھانا ہم سب کھا چکے ہیں۔ آپ تکلیف نہ کریں۔“  
کپڑے بدلنے کے بعد ابوالحسن، عبد اللہ اور طلحہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا۔ اس نے دیر سے واپس آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ بصرہ سے اُسے افریقہ ایک مہم میں شریک ہونے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔  
ساتویں دن عبد اللہ کی رضامندی نے سلمیٰ اور ابوالحسن کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔

(۸)

تین سال بعد ابوالحسن شہر میں اپنے لیے ایک خوبصورت مکان اور اس کے قریب ایک مسجد تعمیر کروا چکا تھا۔ اس کی دیکھا دیکھی اس کے چند ساتھی بھی اس شہر میں آباد ہو گئے۔ پانچ سال کے عرصے میں ابوالحسن اور طلحہ کی تبلیغ سے مقامی باشندوں کے چند گھرانے دائرۂ اسلام میں داخل ہو گئے اور ابوالحسن نے مسلمان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک مدرسہ تعمیر کر کے درس و تدریس کے فرائض طلحہ کے سپرد کر دیے۔

عبد اللہ کی بدولت اس کی تجارت کو بہت فروغ ہوا۔ شادی کے دوسرے سال اس کے ہاں ایک لڑکا اور چوتھے سال ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ لڑکے کا نام اُس نے خالد اور لڑکی کا نام ناہید رکھا۔ دسویں سال ایک اور لڑکا پیدا ہوا لیکن تین ماہ کی عمر میں والدین کو داغ مفارقت دے گیا۔

جب خالد کی عمر سات اور ناہید کی عمر پانچ برس تھی۔ سلمیٰ کے باپ نے چند دن موسمی بخار میں مبتلا رہ کر داعی اجل کو لبیک کہا۔

کی تمنا اس سے کہیں زیادہ ہے۔“

راجہ نے کہا۔ ”دلپ سنگھ! میں یہ چاہتا ہوں کہ راجہمار کی سپاہیانہ تربیت ابوالحسن کو سونپ دی جائے۔ تم اس سے ملو۔ اگر وہ یہ خدمت قبول کرے تو ہم آگے ایک معقول معاوضہ دینے کے لیے تیار ہیں۔“

دلپ سنگھ کے کہنے پر ابوالحسن نے راجہ کی دعوت خوشی سے قبول کر لی لیکن معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔

دو سال کی تربیت کے بعد ابوالحسن نے راجہ سے کہا۔ ”اب آپ کا بیٹا فنون پرگری میں اس ملک کے بہترین فوجوالوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔“

راجہ نے پوچھا۔ ”میں جانتا چاہتا ہوں کہ وہ تیرا انداز ہی اور شاہسوار ہی میں خالد کا مقابلہ ہے یا نہیں؟“

ابوالحسن نے جواب دیا۔ ”خالد نے اس عمر میں تیر و کمان سنبھالا تھا۔ جب آپ کا راجہمار کھلونوں سے دل بہلایا کرتا تھا اور اس عمر میں گھوڑے کی پٹھ پر بیٹھنا سیکھا تھا جس عمر میں راجہمار کو نوکر کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے۔ خالد فطرتاً ایک سپاہی ہے اور راجہمار فطرتاً ایک شہزادہ ہے۔“

”اور راجہمار تیغ زنی میں کیسا ہے؟“

”وہ خالد سے عمر میں بڑا ہے، اس کے بازو بھی اسی قدر مضبوط ہیں۔ میں نے

دو دنوں کا مقابلہ کرا کے نہیں دیکھا لیکن میرا خیال ہے کہ وہ خالد کی نسبت زیادہ آسانی سے تلوار گھما سکتا ہے۔“

راجہ نے بیٹے کو بلا کر پوچھا۔ ”کیوں راجہمار! تم اپنے استاد کے بیٹے سے تلوار کے دو دو ہاتھ دکھانے کے لیے تیار ہو؟“

راجہمار نے جواب دیا۔ ”نہیں پتا جی! وہ میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اگر میں ہار گیا

دلپ سنگھ نے جواب دیا۔ ”مہاراج! اگر عرب مائیں بچپن میں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت نہ کرتیں تو آج وہ ادھی دنیا پر قابض نہ ہوتے۔ میں نے سنا ہے کہ عرب مائیں چودہ سال کے بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دیتی ہیں۔“

راجہ نے پوچھا۔ ”خالد کی عمر کیا ہے؟“

”مہاراج! یہی کوئی بارہ سال ہوگی۔“

”آخر ان بچوں میں کیا خوبی ہے۔ جو ہمارے بچوں میں نہیں؟“

دلپ سنگھ نے جواب دیا۔ ”مہاراج! اگر برانہ مائیں تو میں عرض کروں۔“

راجہ نے کہا۔ ”کو!“

”مہاراج! ہم میں اور ان میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ہم بے شمار دیوتاؤں کو مانتے ہیں۔ ان دیوتاؤں کے علاوہ دنیا کی ہر وہ طاقت جو ہمیں خوفزدہ کر سکتی ہے۔ ہماری نگاہوں میں دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ مثلاً جاری راہ میں اگر کوئی دشوار گزار پہاڑ آجائے تو ہم اپنی قوتِ تسخیر کے امتحان کی بجائے اُسے دیوتا سمجھ کر اس کی پوجا کرنا کر دیتے ہیں لیکن وہ صرف ایک خدا کو مانتے ہیں اور اس کے سوا دوسرے زمین کی کسی بڑی سے بڑی قوت کے سامنے سر جھکانا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اُن کا ایمان ہے کہ انسان مر کر فنا نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔“

ابوالحسن نے ایک دن مجھے بتایا تھا کہ جب خالد اُن کا بہت بڑا سپہ سالار شام کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو شام کے گورنر نے اُسے لکھا تھا کہ تم پہاڑ سے ٹکرا رہے ہو۔ تمہارے چالیس ہزار سپاہیوں کے مقابلے میں میرے پاس اڑھائی لاکھ

ایسی فوج ہے جو بہترین ہتھیاروں سے مسلح ہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کے سپہ سالار نے لکھا کہ مجھے تمہاری طاقت

لیکن تم شاید یہ نہیں جانتے کہ تمہارے سپاہیوں کے دلوں میں جس قدر زندہ رہنے کی آرزو ہے میرے سپاہیوں میں موت

ساتھ لے گئے اور بعض اپنے اہل و عیال کو گھروں میں چھوڑ گئے۔

ابوالحسن اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن سفر سے تین دن قبل سلمیٰ اچانک بیمار ہو گئی اور اسے یہ ارادہ ملتوی کرنا پڑا۔

خالد عقیاب کے اس بچے کی طرح جو پر نکلنے کے بعد گھونسلے میں پھیر پھرا رہا ہو، میدان عمل میں اپنے سپاہیانہ جوہر دکھانے کے لیے بے قرار تھا لیکن ماں کی علالت نے اُسے گھر ٹھہرنے پر مجبور کر دیا۔ ابوالحسن نے وعدہ کیا کہ واپس آتے ہی اسے عرب کی سیاحت کے لیے بھیج دے گا۔

رخصت کے دن سلمیٰ کو سخت بخار تھا لیکن وہ انتہائی تکلیف کے باوجود بستر پر نہ لیٹی۔ شوہر کو الوداع کہنے سے پہلے اس نے سر ابا التجابین کو کہا: ”دیکھیے! میں بالکل تندرست ہوں۔ مجھے ساتھ لے چلیے۔ اپنے وعدے نہ بھولیے۔“

ابوالحسن نے ممنوم ساہو کو جواب دیا: ”نہیں سلمیٰ! جہاز پر موسمی بخار تمہیں بہت تکلیف دے گا۔ تم تندرست ہو جاؤ گی تو میں دوسرے سفر میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا۔ دیکھو میں تمہاری تیمارداری کے لیے خالد اور ناہید کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ طلحہ بھی تمہارا خیال رکھے گا۔“

اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا: ”نہیں! نہیں! مجھے ضرور لے چلیے! میں آپ کے ساتھ ہر تکلیف برداشت کر سکتی ہوں۔“

ابوالحسن نے کہا: ”سلمیٰ ضد نہ کرو۔ دیکھو تمہاری بنض کس قدر تیز ہے۔ بخار سے تمہارا چہرہ سُرخ ہو رہا ہے۔ تم نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا۔“

”نہیں! اس دفعہ مجھے معلوم ہو چاہے کہ آپ کا سفر بہت لمبا ہے اور میں شاید دیر تک انتظار نہ کر سکوں گی۔“

ابوالحسن نے ممنوم صورت بنا کر جواب دیا: ”سلمیٰ! تم رو رہی ہو کئی برس ہوئے

مجھے شرم آئے گی، اور وہ ہار گیا تو بھی مجھے ہی شرم آئے گی۔“

(۹)

ابوالحسن کی شادی کو اٹھارہ برس گزر چکے تھے۔ خالد کی عمر سولہ اور ناہید کی عمر چودہ برس تھی۔ خلیفہ ولید کی مسند نشینی کے ساتھ مسلمانوں کی نئی فتوحات کا آغاز ہو چکا تھا۔

ایک دن سندھی تاجروں کا جہاز آیا۔ ان کے ساتھ عمان کا ایک عیسائی بھی تھا۔ سندھ کے تاجروں نے جزیرے کے عربوں سے ترکستان اور شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی شاندار فتوحات کا ذکر کیا۔ عمان کے تاجر نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی۔ ابوالحسن اور اس کے چند ساتھی حج کے لیے تیار تھے۔ اب حج کے ارادوں کے ساتھ شوق جہاد بھی شامل ہو گیا۔

راجہ باہر سے آنے والے تاجروں کی زبانی نئے ممالک کی خبریں نہایت دلچسپی سے سنا کر تا تھا۔ مسلمانوں کی تازہ فتوحات کی خبریں سن کر اُس نے ابوالحسن کو بلایا اور مسلمانوں کے خلیفہ اور عراق کے گورنر کو سونے اور جو اہرات کے چند تحائف بھیجنے کی خواہش ظاہر کی۔

ابوالحسن نے جواب دیا: ”میں خوشی سے آپ کے تحائف ان کے پاس لے جاؤں گا۔“

سندھ کے تاجروں نے اپنا مال فروخت کیا اور نیا مال خرید کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے چند دن بعد ابوالحسن اور اس کے ساتھی سفر حج کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سال سرانڈیپ کے نو مسلموں کے علاوہ حج پر جانے والے عربوں کی تعداد بھی خلاف معمول زیادہ تھی۔

طلحہ اور اس کے علاوہ تین اور عرب تاجر حج پر جانے والوں کے گھروں کی دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہ گئے۔ بعض عرب اپنے کم سن بچوں کو طلحہ کی حفاظت میں چھوڑ کر بیویوں کو

سمندر کی طرف دیکھ رہی۔ ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔  
 ناہید نے کہا: "اچی جان! آپ نے ابا جان سے وعدہ کہا تھا کہ آپ ہمارے  
 سامنے آنسو نہ بہائیں گی۔"  
 سلمیٰ نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا: "بیٹی! کاش یہ میرے بس کی بات  
 ہوتی، تمہارے باپ کے مقابلے میں میرا دل بہت کمزور ہے۔"  
 سلمیٰ یہ کہہ کر بیٹھ گئی۔ ناہید نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: "اچی!  
 آپ کو ابھی تک بخیر ہے۔ آپ بستر پر لیٹ جائیں!"

میں نے تمہیں یہ بتایا تھا کہ مسلمان عورتیں مجاہدوں کو رخصت کرتے وقت آنسو نہیں  
 بہاتیں۔"

ان الفاظ نے سلمیٰ پر جاؤ کا سا اثر کیا۔ اس نے آنسو پونچھ ڈالے اور مسکراتے کی  
 کوشش کرتے ہوئے بولی: "میرے اس درجہ مغموم ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ جاہلے  
 ہیں بلکہ یہ تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ اگر ایک بار مجھے میدانِ جہاد میں لے  
 جاتے تو پھر شاید مجھے کمزوری کا طعنہ نہ دیتے۔ میں آپ کے ساتھ تیروں کی بارش میں  
 کھڑی ہو سکتی ہوں لیکن آپ کے انتظار میں ہر روز صبح و شام کوٹھے کی چھت پر چڑھ  
 کر سمندر کی طرف دیکھنا میرے لیے صبر آزمائہ ہوگا۔"

ابوالحسن نے جواب دیا: "یہی صبر عورتوں کا جہاد ہے۔ جو کام مرد میدان میں نہیں  
 کر سکتے، وہ عورتیں گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں۔ عورتیں خالد اور مثنیٰؓ  
 نہیں بن سکتیں لیکن ان کی ماؤں کا رتبہ حاصل کر سکتی ہیں۔ آج ہمارے سپاہی اپنے گھروں  
 سے کوسوں دور لڑ رہے ہیں اور ان کے عزائم وہ عورتیں بلند رکھتی ہیں جو صبر و استقلال سے  
 گھروں میں ماؤں، بہنوں اور بیویوں کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں۔ ان پر اعتماد  
 کی بدولت ان کے دل میں یہ خیال بے چینی پیدا نہیں کرتا کہ گھر پر ان کے ننھے بھائیوں  
 اور بچوں کا کیا حال ہوگا۔ سہی! تم ہی بتاؤ۔ کیا وہ سپاہی جسے یہ خیال ہو کہ اس کی بیوی رو  
 رو کر اندھی ہو گئی ہوگی اور بچے گلیوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے، ایک بہادر کی طرح  
 مسکرا کر جان دے سکتا ہے؟ فرض کرو، اگر میں نہ آؤں تو عرب کی دوسری ماؤں کی  
 طرح خالد کو جہاد پر رخصت نہ کر دے گی؟"

سلمیٰ نے جواب دیا: "آپ یقین لڑکیے! اگر آپ خالد کے لیے ایک بڑا باپ بنا گوارا  
 نہیں کرتے تو میں بھی بڑی ماں بنا پسند نہ کروں گی۔"  
 شام کے وقت ابوالحسن کا ہمازدوانہ ہوا۔ سلمیٰ ناہید کے ساتھ چھت پر کھڑی

میں ایک سونے کی ڈبیا اور ایک خنجر تھا۔ خنجر کے دستے میں بیش قیمت ہیروں کے لگیئے جلمگا رہے تھے۔ دلپ سگھ دروازے اور تخت کے درمیان مختلف مقامات پر تین بار جھکا۔ پھر آگے بڑھا اور راجہ کے سامنے طشت رکھنے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا لیکن اس دوران میں راجہ ولی عہد اور باقی حاضرین دربار کی نگاہیں زیادہ تر اس کے نوجوان ساتھی پر مرکوز رہیں۔

یہ زمانہ جس سے ہماری داستان تعلق رکھتی ہے، عرب کے صحرائیوں کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ اسلامی فتوحات کی سیلابی موجوں موجوں کے سامنے اس سے کئی سال قبل کفر کے مضبوط ترین قلعوں کی دیواریں کھوکھلی ہو چکی تھیں اور اب ایک زبردست ریلا انھیں خس و خاشاک کی طرح بہائے لیے جا رہا تھا۔ ترکستان، آرمینیا اور شمالی افریقہ کے میدانوں میں ان کے گھوڑے سرسپٹ دوڑ رہے تھے۔ فتوحات کے سیلاب کی ایک لہر مشرق میں کمران تک پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قرب و جوار کے ممالک کے باشندے ہر عرب کے چہرے پر سکندر کا تخت اسطو کی سی فراست اور سلیمان کا ساجہ و جلال دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ روسے زمین کی ایک پیمانہ قوم اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا کی نگاہوں میں وہ بلندی حاصل کر چکی تھی جو آج تک کسی قوم کو نصیب نہیں ہوئی۔

سیلون (سراندیپ) کے راجہ کے دربار میں وہ نوجوان کھڑا تھا جس کے آباء اجداد یرموک اور قادسیہ کی جنگوں میں مشرق اور مغرب کی دو عظیم ترین سلطنتوں کی عظمت خاک میں ملا چکے تھے، وہ ان نوجوانوں میں سے تھا جن کی صورت دیکھنے کے بعد کسی کو ان کی سیرت کے متعلق تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ راجہ اور اس کے درباری ایک نظر میں اس کی صورت اور سیرت کی ہزاروں خوبیوں کے معترف ہو چکے تھے۔ وہ بے پروائی سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور دیکھنے

## سراندیپ کے دربار میں

ہمارا سراندیپ تخت پر رونق افروز تھا۔ تخت سے نیچے دائیں بائیں آہنوس کی کرسیوں پر چند سردار حسب مراتب بیٹھے تھے۔ راجہ کے دائیں ہاتھ سب سے پہلی کرسی راج کمار اور دوسری رام کی تھی۔ راج کمار ایک خوش شکل اور بارعب نوجوان تھا۔ کرسیوں کے پیچھے دو قطاروں میں چند عمدہ دار ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے۔ چوہدرے دربار میں داخل ہوا اور رسمی آداب بجالانے کے بعد بولا: "ہمارا راجہ دلپ سگھ حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔"

راجہ پریشان سا ہو گیا اور بولا: "دلپ سگھ آگیا! ابوالحسن اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟"

چوہدرے نے جواب دیا: "ہمارا راجہ! ان میں سے اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ ایک عرب نوجوان ہے اور وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔"

راجہ نے بے قرار ہو کر کہا: "بلاؤ انھیں جلد ہی کرو۔"

چوہدرے کے واپس جانے کے محوڑی دیر بعد دلپ سگھ ایک بیس بائیس سالہ عرب نوجوان کے ہمراہ داخل ہوا۔ دلپ سگھ کے ہاتھوں میں چاندی کا ایک طشت تھا جس

عراق سلام کہتے ہیں۔

یہ فقرہ نصف عربی اور نصف سمراندیپ کی زبان میں ادا کیا گیا۔ راجہ اور ولی عہد کی مسکراہٹ دیکھ کر تمام درباری ہنس پڑے۔

راجہ نے پوچھا۔ ”آپ نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی؟“

ذیر نے دلپ سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ”یہ میرے اُستاد ہیں۔ راجہ اور درباریوں نے دلپ سنگھ کو پہلی دفعہ توجہ کا مستحق سمجھا۔ راجہ نے کہا۔

”ہاں دلپ! ابوالحسن کا کچھ پتہ نہیں چلا؟“

دلپ سنگھ نے جواب دیا۔ ”ہمارا اج! اس سال ہمارے ملک کا کوئی جہاز عرب

کی کسی بندرگاہ تک نہیں پہنچا۔ بصرہ، مکہ، مدینہ اور دمشق میں ہر جگہ ان میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار موجود تھے لیکن سب نے یہی بتایا کہ وہ حج پر نہیں پہنچے۔ واپسی پر میں ہر بندرگاہ سے ان کا سراغ لگانا آیا ہوں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے ساحل کے قریب ان کا جہاز کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ ہمارا اج نے دمشق کے

بادشاہ اور عراق کے حاکم کو جو تحائف بھیجے تھے، وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچے، پھر بھی وہ آپ کا شکر یہ ادا کرتے تھے۔ میں اُن کی طرف سے یہ تحائف آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ اس سونے کی ڈبیا میں ایک ہیرا ہے۔ یہ دمشق کے بادشاہ نے بھیجا ہے اور یہ خنجر عراق کے حاکم نے۔ میں عربی نسل کے آٹھ گھوڑے بھی لایا ہوں چار سفید ہیں جو بادشاہ نے دیے ہیں اور چار مشکلی ہیں جو عراق کے حاکم نے بھیجے ہیں۔ انھیں شاہی اصطبل میں پہنچا دیا گیا ہے۔“

راجہ نے جھک کر ڈبیا اٹھائی اور کھول کر کچھ دیر چمک دار ہیرا دیکھنے کے بعد خنجر اٹھا کر اس کے دستے کی تعریف کرتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دونوں تختے راجکار کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”دیکھو راجکار! یہ تختہ اس بادشاہ کا ہے جس کا لوہا ہر

دلوں کی نگاہیں اس کے جسم کی ہر جنبش میں ایک غایت درجہ کی خود اعتمادی دیکھنے لگیں۔ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور تمام حاضرین ہمہ تن گوش بن گئے۔ کچھ دیر ”السلام علیکم“ کے الفاظ راجہ اور درباریوں کے کانوں میں گونجتے رہے۔ راجکار ”وعلیکم السلام“ کہہ کر مسکراتا ہوا اٹھا اور تمام سردار اُٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ راجکار نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا اور تمام سردار دربار کے آداب کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے باری باری آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ راجکار نے اُسے اپنے قریب بٹھالیا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں اس سے باتیں کرنے لگا۔

راجکار نے پوچھا۔ ”آپ کا نام؟“

ذیر نے جواب دیا۔ ”ذیر۔“

”آپ کہاں سے آئے ہیں؟“

”بصرہ سے۔“

”ابوالحسن اور ان کے ساتھیوں کا پتہ چلا؟“

ذیر نے جواب دیا۔ ”نہیں! مجھے ڈر ہے کہ وہ راستے میں کسی حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔“

راجکار کے چہرے پر پڑمردگی چھا گئی۔

راجہ کچھ دیر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اُسے راجکار کی باتوں پر خوش ہونا چاہیے یا ناراض حاضرین تخت کی بجائے اُن دو کرسیوں کی طرف دیکھ رہے تھے جن پر راجکار اور عرب نوجوان رونق افروز تھے اور راجہ کے لیے یہ نئی بات تھی لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کے منہ سے عربی کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سننے کی مسرت اس تلخی پر غالب آ رہی تھی۔ بالآخر اس نے کہا۔ ”ہم آپ کو دیکھ بہت خوش ہوئے ہیں۔“

ذیر نے جواب دیا۔ ”شکر یہ! سمراندیپ کے راجہ کو ہمارے خلیفہ اور دانی

بچوں کو بصرہ پہنچا دینے کا بندوبست کریں، وہ آپ کے ایلچی کے ساتھ اپنی فوج کے ایک سالار زبیر کو ایک جہاز دے کر بھیج رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت جلد ان کی روانگی کا بندوبست کر دیں گے۔ دانی بصرہ کا خیال ہے کہ ابوالحسن اور اس کے ساتھی ہندوستان کے مغربی ساحل پر کسی حادثے کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر یہ پتہ چلا کہ ان کا جہاز کسی علاقہ کے بحری ٹیٹروں نے غرق کیا ہے تو انھیں سزا دینے میں کسی قسم کی تاخیر نہ ہوگی۔

خط کا مضمون سننے کے بعد راجہ گردن جھکائے دیر تک کچھ سوچتا رہا۔ زبیر نے راجہ کی طرف دیکھا۔ وہ آبدیدہ ہو کر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ زبیر نے کہا: "آپ بہت پریشان ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو عربوں کے ساتھ بہت افس تھا۔"

راجہ کے بچنے ہوئے ہونٹوں پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ اس نے آنسوؤں کو ضبط کرنے کی ناکام کوشش کی پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور کوئی بات کہے بغیر عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ راجہ کو بذات خود ابوالحسن کے ساتھ دلی لگاؤ تھا۔ اس کی موت کی خبر اس کے لیے کم المناک نہ تھی لیکن مسلمانوں کے خلیفہ کے ایلچی کی موجودگی کا احساس اسے انتہائی غصہ سے کام لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ راجہ کے اٹھ جانے کے بعد اس نے زبیر اور دلیپ سنگھ کے سوا تمام درباریوں کو رخصت کا حکم دیا اور زبیر سے کہا: "راجہ کو ابوالحسن کے ساتھ بے حد افس تھا۔ میں بھی اسے اپنا بھائی سمجھتا تھا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہے لیکن یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی مر چکے ہیں ممکن ہے کہ انھیں راستے میں بحری ڈاکوؤں نے گرفتار کر لیا ہو۔ مجھے سب سے زیادہ بے چاری ناہید کا دکھ ہے۔ ابھی وہ اپنی ماں کا غم نہیں بھولی۔ اب یہ صدمہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔"

زبیر نے سوال کیا: "ناہید کون ہے؟"

راجہ نے جواب دیا: "وہ ابوالحسن کی اکلوتی بیٹی ہے۔ میں بھی اسے اپنی ہی بیٹی سمجھتا ہوں۔ بہت اچھی لڑکی ہے۔" اس کے بعد راجہ دلیپ سنگھ کی طرف متوجہ ہوا۔ "دلیپ!

لوہے کو کاٹتا ہے۔ جس کی سلطنت میں کئی دریا، کئی پہاڑ اور کئی سمندر ہیں، جس کے سپاہی پتھر کے قلعوں کو مٹی کے گھر وندے سمجھتے ہیں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دریاؤں کو عبور کرتے ہیں اور یہ خیر مجھے عراق کے حاکم نے بھیجا ہے جس کے نام سے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے ہیں۔"

راجہ کیسی اور خیال میں تھا۔ اس نے یہ دونوں چیزیں بے پروائی سے دیکھیں اور وزیر کے ہاتھوں میں تھما دیں۔ یہ تحائف جنھیں سرانڈیپ کا سادہ دل راجہ روئے زمین کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ کے بعد دیگرے تمام درباریوں کے ہاتھوں میں گردش کرنے کے بعد پھر راجہ کے پاس پہنچ گئے۔ وہ کبھی خنجر کا دستہ ٹٹولتا اور کبھی ڈیا کھول کر دیکھتا۔ بالآخر اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا: "میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے تمہارے بادشاہ کو دیکھوں۔"

زبیر نے کہا: "ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔"

راجہ نے مسکراتے ہوئے کہا: "ابوالحسن بھی یہی کہا کرتا تھا کہ مسلمان کسی کو بادشاہ نہیں بناتے۔ آہ! بے چارہ کتنا اچھا آدمی تھا۔ تلوار کا دھنی، بات کا پکا۔ اس کی لڑکی کو کس قدر صدمہ ہوگا اور وہ عبدالرحمن اور یوسف کس قدر شریف تھے۔ بھگوان جانے یہ خبر سن کر ان کے بال بچوں کی کیا حالت ہوگی، آپ ان سے ملے ہیں؟"

"جی نہیں! میں سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔" زبیر نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر راجہ کو پیش کرتے ہوئے کہا: "یہ خط مجھے بصرہ کے حاکم نے دیا ہے۔"

راجہ نے دلیپ سنگھ کو اشارہ کیا۔ دلیپ سنگھ نے زبیر سے خط لے لیا اور اسے کھول کر ترجمہ سنانے لگا۔

"ہمارا آج کو وائی بصرہ سلام کہتے ہیں۔ وہ عرب تاجروں کی بیواؤں اور یتیم بچوں کے ساتھ نیک سلوک کے ممنون ہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ ہمارا آج ان بیواؤں اور یتیم



”نہیں! ہم ابھی وہاں نہیں گئے۔ میں انھیں مہمان خانے میں ٹھہرا کر تھامے ساتھ چلتا ہوں“

خالد زبیر کی طرف متوجہ ہوا۔ ”آپ کی مہمان نوازی ہمارا حق ہے۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ کم از کم عورتوں اور بچوں کو تسلی دینے کے لیے تو —“

زبیر نے کہا۔ ”چلو دلپ سنگھ!“

اس نے جواب دیا۔ ”اگر مناسب خیال کریں تو آپ خالد کے ساتھ ہوا آئیں میں اتنی دیر میں آپ کے ساتھیوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آؤں“

زبیر خالد کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا۔ ”تم ابو الحسن کے بیٹے ہو؟“

”ہاں! لیکن آپ کو کس نے بتایا؟“

”میں تمام راستے دلپ سنگھ سے تم لوگوں کے متعلق پوچھتا آیا ہوں۔ اس کی باتوں سے تمھاری جو تصویر میرے ذہن میں تھی، تم اس سے مختلف نہیں ہو۔ جس صبر و سکون کے ساتھ تم نے یہ المناک خبر سنی ہے میں اس سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تم سچ خالد ہو؟“

خالد نے اپنے ہونٹوں پر ایک مغموم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ”جب ابا جان مجھے کے لیے رخصت ہو رہے تھے تو میں نے بھی ساتھ جانے کیلئے اصرار کیا تھا۔ امی کی علالت کی وجہ سے انھوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں اس وقت پہلی بار دیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انھیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انھوں نے کہا۔ ”بیٹا! خالد دیا نہیں کرتے۔ میں نے تمھیں اس مجاہد اعظم کا نام دیا ہے جو زنجیوں سے چور ہونے کے باوجود اُٹ تک نہ کرتا تھا؟“

(۳۰)

شہر کے ایک کونے پر ایک ندی کے پاس عرب تاجروں کے مکانات تھے۔ ندی

انھیں مہمان خانے میں لے چلو! اس بات کا خیال رکھنا کہ انھیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، میں زاجکمازی کو ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے بھیجتا ہوں۔“

زبیر نے کہا۔ ”میں سیدھا آپ کے پاس چلا آیا تھا۔ ان بچوں کو ابھی تک نہیں دیکھا۔“

”بہت اچھا۔ دلپ سنگھ! انھیں ان کے پاس لے جاؤ!“

(۲)

محل کے دروازے پر دلپ سنگھ اور زبیر کو انیس برس کا ایک نوجوان ملا۔ اس نے دلپ سنگھ کو دیکھتے ہی سوال کیا۔ ”کیا یہ سچ ہے کہ ابا جان کا جہاز جدہ نہیں پہنچا؟“

دلپ سنگھ نے ہاتھ بڑھا کر اُسے گلے لگا لیا اور کہا۔ ”خالد! میں ہر شہر اور ہر بندرگاہ

میں انھیں تلاش کر چکا ہوں لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔“

خالد نے کہا۔ ”میں ابھی بندرگاہ سے ہو کر آیا ہوں۔ عرب کے چند جہاز دان بتاتے

تھے کہ ان کا جہاز سندھ کے ساحل کے قریب غرق ہو چکا ہے۔ آپ دیبل کے حاکم سے ملتے، شاید کوئی سماع مل جاتا۔“

دلپ سنگھ نے جواب دیا۔ ”سندھ کا راجہ اور اس کے اہلکار بہت مغرور نہیں مجھے ڈرتھا کہ دیبل کا سردار مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ دے گا۔ اس لیے میں نے خود وہاں جا کی بجائے کمران کے مسلمان گورنر سے کہا تھا کہ وہ اپنا ایلچی بھیج کر معلوم کریں۔ دمشق میں آپ کے خلیفہ اور لبرہ میں حجاج بن یوسف سے ملنے کے بعد میں واپسی پر پھر کمران کے حاکم سے ملا تھا۔ سندھ سے ان کا ایلچی واپس آچکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ دیبل کے حاکم نے اس جہاز کے متعلق لاعلمی ظاہر کی ہے۔“

خالد نے کہا۔ ”میں بندرگاہ سے سیدھا اسی طرف آیا ہوں۔ کیا آپ ہمارے

گھروں میں یہ خبر پہنچا چکے ہیں؟“

انجام کی خبر کے باوجود خالد عربوں کی روانتی نمان نوازی کا ثبوت دینے کے لیے زبیر کی ہر بات میں دلچسپی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ تاہم زبیر نے کئی بار محسوس کیا کہ اس کے ہونٹوں پر ایک سنگین مسکراہٹ آہوں اور آنسوؤں سے کہیں زیادہ جگہ دوڑتی تھی۔

باتیں کرتے کرتے خالد نے کئی بار باہر کے پھاٹک کی طرف اٹھ اٹھ کر دیکھنے کے بعد علی سے پوچھا۔ ”علی! ناہید ابھی نہیں آئی۔ جاؤ اسے بلاؤ!“

علی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ خالد نے زبیر سے کہا ”ہمارا راجہ کی بیٹی کو میری بہن سے بہت محبت ہے۔ آج صبح وہ خود یہاں آکر اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ اسے یہ خبر سن کر بہت صدمہ ہوگا۔ وہ ابھی تک امی کی قبر پر ہر روز جایا کرتی ہے اور اب!“

یہاں تک کہ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گیا۔

زبیر نے مغموم لہجے میں پوچھا۔ ”آپ کی والدہ کب فوت ہوئیں؟“

”انھیں فوت ہوئے دو مہینے ہو چکے ہیں۔ ابا کے حج پر جانے کے بعد وہ چھ مہینے موسمی بخار میں مبتلا رہیں لیکن ان کی موت کا باعث آبا جان کا لاپتہ ہونا تھا۔ وہ صبح اور شام مکان کی پھت پر چڑھ کر سمندر کی طرف دیکھا کرتی تھیں۔ جب دور سے کوئی جہاز نظر آتا تو ان کے چہرے پر رونق آجاتی۔ وہ مجھے خبر لانے کے لیے بندرگاہ کی طرف بھیجتیں اور جب میں مایوس لوٹتا تو دور سے میری شکل دیکھتے ہی ان کی آنکھیں پتھر جاتیں۔“

زندگی کی آخری شام ان میں زینے پر پاؤں رکھنے کی ہمت نہ تھی۔ ان کے اصرار پر ہم ان کی چارپائی پھت پر لے گئے۔ وہ تکیے کا سہارا لے کر دیر تک سمندر کی طرف ٹنگی باندھ کر دیکھتی رہیں۔ بد قسمتی سے ہمیں اس دن کوئی جہاز بھی دکھائی نہ دیا۔ میں نماز مغرب کی اذان سن کر بیچے اترا اور یہاں سے نزدیک ہی ایک مسجد میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو وہ آخری سانس لے چکی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ دُور افق پر کسی جہاز کو دیکھ رہی ہیں۔ ناہید نے مجھے بتایا کہ ان کے آخری الفاظ یہ تھے:

کے دونوں کناروں پر ناریل کے سرسبز درخت کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد خالد نے پتھر کی ایک چار دیواری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ”یہ ہے ہمارا مکان“

چار دیواری کے اندر کیلوں اور ناریل کے درختوں کا ایک گنجان بانچہ تھا۔ پتھر کے چھوٹے سے مکان کے سامنے ایک چبوترے پر بانس کا چھتر تھا، جسے ایک سرسبز بیل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ ہوا بند ہونے سے فضا میں حرارت بڑھ رہی تھی۔ زبیر کو پسینے میں شرا بوز دیکھ کر خالد نے اسے مکان کے اندر لے جانے کی بجائے اس چبوترے پر بٹھانا

مناسب خیال کیا۔

زبیر بید کے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ خالد کے اشارے سے ایک سیاہ فام لڑکا پتھر کے سے اسے ہوا دینے لگا۔ سیا فام لڑکا پنکھا ہلانے میں ایک طرح کی مسرت محسوس کر رہا تھا لیکن زبیر نے خالد سے کہا ”ہمیں اس گزنی میں اسے تکلیف نہیں دینا چاہیے! اسے کو آرام کرے۔“

سیاہ فام لڑکے نے عربی میں جواب دیا۔ ”آپ ہمارے مہمان ہیں۔ مجھے خدمت کے حق سے محروم نہ کیجیے!“

زبیر نے کہا۔ ”اوہو! تم عربی جانتے ہو۔“

لڑکے کی بجائے خالد نے جواب دیا۔ ”یہ بچپن سے ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اسے ہمارے آبا جان نے پالا تھا۔“

لڑکے نے مزید تعارف کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ”اور میں مسلمان ہوں میرا نام علی ہے۔“

خالد نے سرانڈیپ کی زبان میں کچھ کہا اور علی پنکھا دکھ کر بھاگتا ہوا پاپاس ہی بیک ناریل کے اونچے درخت پر رکھ کر چند ناریل توڑ لیا۔

ناریل کا پانی پینے کے بعد زبیر خالد سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ اپنے باپ کے المناک

لڑکیوں کو دیکھ چکا تھا جو متاثر ہونے والی نگاہوں کی تلاش میں پھرتی ہیں۔ شام اور فلسطین میں بے شمار بے باک نگاہیں اس کے مردانہ حسن کا اعتراف کر چکی تھیں، لیکن اس دور کے عام نوجوانوں کی طرح وہ نگاہیں سچی رکھنے کا عادی تھا۔

زیر جہاز پر سفر کے دوران دلہنپ سنگھ سے ہر عرب بچے کے متعلق سوالات پوچھ کر اپنے ذہن میں ان کی خیالی تصویریں بنا چکا تھا۔ دلہنپ سنگھ سے ابوالحسن اور اس کے بچوں کے متعلق جو کچھ وہ سُن چکا تھا، اس سے اس کا اندازہ یہ تھا کہ ابوالحسن کے بچے شکل و شبہت اور عادات و اطوار میں باقی تمام بچوں سے مختلف ہوں گے۔ یہ اُس کی دلچسپی کی پہلی وجہ تھی۔ پھر خالد کی زبانی جو کچھ اُس نے سُنا، اس کی دلچسپی میں اضافہ بھی ہو گیا اور اس کے بعد جب علی ناہید کو بلانے کے لیے گیا تو سابقہ دلچسپی کے ساتھ ایک ملکی سی خلش کا بھی اضافہ ہو گیا لیکن اس کی دلچسپی کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی قوم کی ایک ستم رسیدہ لڑکی تھی۔

ناہید نے پھر کہا: ”مجھے جواب دیجیے، کیا یہ سچ ہے؟ آپ مجھ سے کیا چھپانا چاہتے ہیں۔ میں سُن چکی ہوں“

خالد نے اٹھ کر آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا: ”ناہید! تقدیر کے سامنے کسی کا کلاس نہیں چلتا“

زیر نے اُسے تسلی دینے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: ”مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی خوشخبری کی خبر نہیں لاسکا“

ناہید کوئی اور بات کیے بغیر مکان کی طرف چل دی اور چند قدم آہستہ آہستہ اٹھانے کے بعد بھاگ کر ایک کمرے میں داخل ہو گئی۔

خالد ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں کھڑا رہا۔ بالآخر زیر کی طرف دیکھ کر بولا: ”میں ابھی آتا ہوں“

”ناہید! تمہارے آبا آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ وہ بے ذمہ نہیں، میں بے وفا ہوں، جو ان کا انتظار نہ کر سکی“

زیر نے اپنی بائیس سالہ زندگی میں تیروں اور نیروں کے سوا کچھ نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک نڈر ملاح تھا اور فقط طوفانوں سے کھیلنا جانتا تھا۔ اس کی زبان یلٹھے اور شیریں الفاظ سے نا آشنا تھی۔ خالد کی باتوں سے بے حد متاثر ہونے کے باوجود وہ تسلی اور تشفی کے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا: ”خالد! مجھے ان کے حسرت ناک انجام کا بہت دکھ ہے۔ کاش! میں تمہارے حصے کا بوجھ اٹھا سکتا“

علی بھاگتا ہوا واپس آیا اور کہنے لگا: ”وہ آ رہی ہیں“

زیر کی نگاہیں نادانستہ باہر کے دروازے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ناہید آئی اور دوسرے اپنے بھائی کے ساتھ ایک اجنبی کو دیکھ کر جھکی، رُکی اور چہرے پر نقاب ڈال لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔

زیر کو ایک دگدگ آواز سُنی دی۔ ”کیا یہ سچ ہے کہ آبا جان.....“

فترے کا آخری حصہ ”بچکیوں میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔“

زیر نسوانی حسن و وقار کی ایک غیر فانی جھلک دیکھ چکا تھا۔ اس کی نگاہیں اس کے لیے تیار نہ تھیں اور پیشتر اس کے کہ ناہید کا چہرہ نقاب میں چھپتا، اس کی نگاہوں کا رخ بدل چکا تھا۔ وہ سامنے دیکھنے کی بجائے نیچے دیکھ رہا تھا۔

زیر میں غایت درجہ کی جفا و الدین اور ناتواںی کی تربیت کا نتیجہ تھی اور اس کے علاوہ اس کے کردار کی سب سے بڑی خوبی حسد و رعبہ خود اعتمادی تھی۔ وہ لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ دور دراز کے ممالک میں چکر لگا چکا تھا۔ اوائل شباب میں اسے ایک تجربہ کار جہازران مانا جاتا تھا۔ وہ دور دراز کے ممالک میں غیر اقوام کی آن سرخ و طراد

خالد نے اثبات میں سر ہلایا۔

اس نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا: ”کیا یہ خبر آپ لائے ہیں؟“

زبیر نے جواب دیا: ”مجھے افسوس ہے کہ میں کسنی اچھی خبر کا اہلی نہیں سکا۔“

طلحہ نے پوچھا: ”جہاز کیسے عرق ہوا؟“

زبیر نے جواب دیا: ”ہم یہ معلوم نہ کر سکے۔“

زبیر نے بیواؤں اور یتیموں کو فرداً فرداً تسلی دینے کے بعد غربت واپس جانے

کے متعلق ان کے ارادے دریافت کیے۔

یتیم بچوں اور بیواؤں نے یک زبان ہو کر واپس جانے کی خواہش ظاہر کی۔

زبیر دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ بالآخر نماز عصر کی اذان سن کر اس نے

لوگوں کے ہمراہ مسجد کا رخ کیا۔

طلحہ کے اصرار پر زبیر نے امام کے فرائض انجام دیے۔ جب وہ مسجد سے نکلا

تو دروازے پر راجحمار اور دلپ سنگھ کھڑے تھے۔ خالد کو دیکھ کر راجحمار کی سیاہ اور

پھمک دار آنکھیں پر نم ہو گئیں اور اس نے آگے بڑھ کر خالد کو گلے لگایا۔

دلپ سنگھ نے زبیر سے کہا: ”ہمارا آج نے آپ کو یاد کیا ہے۔ خالد تم بھی چلو!“

زبیر نے کہا: ”میں ابھی اُن سے مل کر آیا ہوں۔ کوئی خاص بات تو نہیں؟“

”ہمارا آج کے دل پر ابوالحسن کی موت کی خبر نے گہرا اثر کیا تھا۔ اس وقت وہ آپ سے

زیادہ دیر باتیں نہ کر سکے۔“

زبیر نے کہا: ”معلوم ہوتا ہے کہ راجحمار کو بھی ان کے ساتھ گہری محبت تھی۔ ان

کے آنسو ابھی تک خشک نہیں ہوئے۔“

دلپ سنگھ نے کہا: ”ہاں! راجحمار کو بہت حد تک ہوا ہے۔ وہ انہیں بہت پیارا

کرتے تھے۔“

خالد جھگ کرناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ ناہید بستر پر منہ کے بل پڑی چکیاں

بھر رہی تھی۔ خالد نے پیار سے اس کا بازو پکڑ کر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا: ”ناہید!

صبر سے کام لو۔“

علی زبیر کے پاس تھوڑی دیر بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ

قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ ناہید کی آپہیں سن کر اُسے زمین کی ہیر

سے ادا اس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ وہ سمٹا اور جھکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور ڈرتے

ڈرتے خالد کے بازو کو چھو کر بولا: ”آپا ناہید کیوں رو رہی ہیں؟“

خالد نے اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ

رکھتے ہوئے کہا: ”علی! آبا جان واپس نہیں آئیں گے۔“

”کم سن بچے کے منہ سے ایک جگہ دوزخ نکلے۔“ نہیں نہیں! یہ نہ کہیے! وہ ضرور آئیں

گے۔“

خالد نے کہا: ”یہ دلپ سنگھ کے ساتھ آئے ہیں۔ اُن کا جہاز شاید غرق ہو چکا

ہے۔“

علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چشمے چھوٹ نکلے اور وہ ہونٹ بھینچ بھینچ کر

بچوں کو ضبط کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ جانا

دچھانتا تھا جہاں اس کی آواز سننے والا کوئی نہ ہو لیکن باہر نکلے ہی اس نے پڑوس

کے بہت سے لوگ اپنے گرد جمع کر لیے۔ تھوڑی دیر میں عربوں کے تمام بچے، عورتیں اور

مرد خالد کے مکان کے صحن میں جمع ہو گئے۔ لوگوں کا شور و غوغا سن کر خالد باہر نکلا

اور بیک وقت کئی زبانیں اس سے مختلف سوالات پوچھنے لگیں۔

طلحہ نے آگے بڑھ کر سب کو خاموش کیا اور خالد سے پوچھا: ”کیا جہاز کے غرق

ہونے کی خبر درست ہے؟“

تمہارے باپ کی موت کا بہت دکھ ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کا جہاز طوفان کے باعث غرق ہو چکا ہے لیکن اگر یہ ثابت ہو گیا کہ راستے میں کسی نے حملہ کر کے ان کا جہاز غرق کر دیا ہے تو میں اس کی سہر کوئی کے لیے اپنے تمام ہاتھی اور سارے جہاز بصرہ کے حاکم کے سپرد کر دوں گا۔

راجہ نے اسے اشارہ کر کے بیٹھ گیا۔ پیر اور خالد بھی بیٹھ گئے۔ لیکن دلپ سنگھ کھڑا رہا۔ ان کے پاس دیکھو، پیر اور خالد آئے۔

راجہ نے دلپ سنگھ کی طرف دیکھ کر کہا: "بیٹھ جاؤ، تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، کل تم نے تمہارے دربار میں تمام سرداروں سے آگے درج کیا ہے، اس بیٹھ کر دو۔"

دلپ سنگھ آگے بڑھ کر راجہ کے پاؤں چھونے کے بعد کرسی پر بیٹھ گیا اور راجہ زبیر سے مخاطب ہوا: "میں بصرہ کے حاکم کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر آپ عرب بچوں کو لاوارث سمجھ کر یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو مجھے ہنسی افسوس ہوگا۔ میں انھیں اپنے بچے سمجھتا ہوں۔ اگر وہ بیان نہیں تو ان کی ہر ضرورت ہمارے شاہی خزانے سے پوری ہوگی، آپ ان سے پوچھ لیں، اگر انھیں یہاں کوئی تکلیف ہو تو بے شک انھیں اپنے ساتھ لے جائیے۔"

زبیر نے جواب دیا: "انھیں یہاں کوئی شکایت نہیں اور میں اپنی حکومت اور تمام عہدوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری قوم کے یتیم بچے اپنے ملک سے اس قدر دور رہیں۔ ان کی بہتر تعلیم و تربیت وہیں پر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ پسند کریں گے تو انھیں یہاں بھیج دیا جائے گا۔"

راجہ نے پوچھا: "آپ سب کو لے جانا چاہتے ہیں؟"

زبیر نے جواب دیا: "نہیں بلکہ اور چند تاجر ہمیں رہیں گے۔"

(۴)

شاہی محل کی طرف جاتے ہوئے زبیر کو لوگوں کا ایک ہجوم جلوس کی شکل میں دکھائی دیا۔ دلپ سنگھ نے کہا: "ہمارا آج! آپ کے تحائف اور گھوڑوں کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے۔ ان کے حکم سے گھوڑوں کا جلوس نکالا گیا۔ گھوڑوں کی لگام تھام کر بازار میں چلنے کی عزت ان لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو ہماری ریاست کے سب سے بڑے سردار ہیں۔ اگر انھیں ابوالحسن کی موت کا غم نہ ہوتا تو شاید خود بھی اس جلوس میں شرکت کرتے۔"

زبیر نے قریب سے دیکھا اور دربار میں سب سے آگے گزریوں پر براجمان ہونے والے آٹھ سردار گھوڑوں کی لگامیں تھامے، ہجوم کے آگے چلے آ رہے تھے۔ گھوڑوں پر جو دو شانے ڈالے گئے تھے وہ بیش قیمت موتیوں سے مرصع تھے۔

راجہ نے مسکراتے ہوئے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا: "کیا آپ کے ملک میں بھی گھوڑوں کی بی عزت ہوتی ہے؟"

زبیر نے جواب دیا: "نہیں! ہم زیادہ تر ان کے چارے اور پانی کی فکر کیا کرتے ہیں۔"

دلپ سنگھ بولا: "یہ گھوڑوں کی عزت نہیں۔ گھوڑے بھیجنے والوں کی عزت کی جائی ہے۔"

آسمان پر بادل پھا رہے تھے اور ہوا نسبتاً خوشگوار ہو رہی تھی۔ راجہ محل کی دوسری منزل پر ایک درخت کے سامنے بیٹھا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔

زبیر اور اس کے ساتھیوں کے قدموں کی چاپ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اٹھ کر زبیر کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد خالد کی طرف متوجہ ہوا۔ "بیٹا! مجھے"

راجہ کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد بولا۔ ”بیٹا! تم ابو الحسن کے بیٹے ہو۔ اگر تم ارادہ کر چکے ہو تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ خوش نصیب ہے وہ قوم جس کی مائیں تمہارے جیسے بچے جنتی ہیں۔“

خالد نے کہا۔ ”میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے خوشی سے اجازت دیں۔“

راجہ نے جواب دیا۔ ”ابو الحسن کے بیٹے کی خوشی میری ناراضگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔“

لیکن خالد اور اس کی بہن بھی تو ہمیں رہیں گے نا؟“

”نہیں! یہ بھی میرے ساتھ جائیں گے!“

راجہ نے مغموم لہجے میں کہا۔ ”نہیں! انہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ خالد کو میں اپنا بھائی بنا چکا ہوں۔“

”اور ناہید میری بہن ہے۔“ پچھلے کمرے کے پردے کی آڑ سے ایک نسوانی آواز آئی اور چودہ پندرہ برس کی ایک لڑکی راجہ کے سامنے آکھڑی ہوئی۔ اس کا رنگ راجہ کی طرح سا نوا تھا لیکن چہرے کے نقوش اس کی نسبت تیکھے آنکھیں خوبصورت اور چمک دار تھیں۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”بھیا! تمہیں ماما جی بلاتی ہیں۔“

خالد اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلا گیا اور لڑکی نے چلتے چلتے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”پتا جی! آپ ان کی باتیں نہ سنیں۔“

راجہ نے ذہیر کی طرف دیکھ کر کہا۔ ”دیکھا آپ نے؟“

ذہیر نے کہا۔ ”بہت اچھا، میں ان کی مرضی پر چھوڑتا ہوں۔“

خالد تھوڑی دیر بعد سر جھکائے واپس آکر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ راجہ نے پوچھا۔

”بیٹا! انہوں نے یہ فیصلہ تم پر چھوڑ دیا ہے۔ اب تم بتاؤ تم یہاں رہنا چاہتے ہو یا نہیں؟“

خالد نے جواب دیا۔ ”آپ کے ہم پر بہت احسانات ہیں۔ اگر میرے پیش نظر دنیا کا کوئی آرام ہوتا تو میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا لیکن اس وقت ہماری قوم دور دراز کے ممالک میں جہاد کر رہی ہے اور میری رگوں میں ایک مجاہد کا خون ہے۔ میں نے سنا ہے کہ موجودہ وقت کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے مجھ سے کم عمر کے لڑکے بھی جہاد پر جا رہے ہیں۔ میں اس سعادت سے محروم نہیں رہنا چاہتا۔“

لگے۔ شہر کے لوگوں نے اپنے مہانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ التوا دعا کہی۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلپیں ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھیر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید، علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔

صبح شام میں تبدیل ہو گئی اور سرسبز پہاڑ کا ساحل افق پر ایک ہلکی سی سرسبز کیر نظر آنے لگا۔ آہستہ آہستہ یہ لکیر بھی شام کے دھندلکے میں چھپ گئی۔ وہ آنسو جو دیر سے ناہید کی آنکھوں میں جمع ہو رہے تھے، ٹپک پڑے، علی بھی اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر قدمے مول گیا تھا۔ لیکن اس کے دل میں خالد اور ناہید کے ساتھ جانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ تھی۔

رات کے وقت مطلع صاف تھا۔ بچے اور عورتیں عرشے پر کھلی ہوئیں سو گئے۔ ناہید دیر تک آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتی رہی۔ چلن کی دوسری طرف خالد زبیر اور ملاحوں سے باتیں کر رہا تھا۔

ہاشم ایک آٹھ سال کا لڑکا ناہید کے قریب لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور باپ ابوالحسن کے ساتھ لاپتہ ہو چکا تھا۔ ہاشم اٹھ کر بیٹھتے ہوئے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ناہید نے پوچھا۔ ”کیا ہے ہاشم؟“

اس نے سوال کیا۔ ”علی کہاں ہے؟“

”وہ خالد کے ساتھ ملاحوں سے باتیں کر رہا ہے۔“

”میں اس سے ایک بات پوچھ کر اسی آتا ہوں۔“ یہ کہہ کر ہاشم تاریکی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا علی کے پاس پہنچا اور پوچھنے لگا۔ ”علی! جب جہاز ڈوب جاتا ہے تو کیا

میں نے اپنے مہانوں کو آنسوؤں اور آہوں کے ساتھ التوا دعا کہی۔ عورتوں کے لیے جہاز کے اندر ایک کشادہ کمرے کے علاوہ بالائی تختہ کے ایک حصے پر بھی چلپیں ڈال کر پردے کا انتظام کیا گیا تھا۔ خالد ادھر ادھر گھوم پھیر کر ملاحوں کے کام میں دلچسپی لے رہا تھا۔ ناہید، علی کے ساتھ تختہ جہاز پر کھڑی ناریل کے ان بلند قامت اور سرسبز درختوں کو دیکھ رہی تھی۔ جن کی چھاؤں میں اس نے زندگی کے بہترین دن گزارے تھے۔

مشرق

دس دن بعد ایک صبح بندرگاہ پر دو جہاز سفر کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایک جہاز پر زبیر، تیم بچوں اور بیواؤں کو لیے جا رہا تھا اور دوسرے جہاز پر دلپ سنگھ راجہ کی طرف سے حجاج بن یوسف اور خلیفہ ولید کے لیے ہاتھی، سونا، چاندی اور ہیروں کے تحائف لے کر جا رہا تھا۔ ہاتھی تعداد میں دس تھے۔

راجہ اور دلی عہد زبیر اور اس کے ساتھیوں کو رخصت کرنے کے لیے بندرگاہ تک آئے۔ راجہ بیواؤں اور تیم بچوں میں سے ہر ایک کو گرانقدر تحائف دے چکا تھا۔ زبیر کو اس نے کئی چیزیں پیش کیں لیکن اس نے فقط گینڈے کی ڈھال پسند کی۔ رانی اپنا موتیوں کا بیش قیمت ہار سخت اصرار کے بعد ناہید کو پہنا سکی۔ راجہ راجہ کی رخصت کے دن اس کے گھر آئی اور بصد ہو کر ناہید کو اپنی ہیرے کی انگوٹھی دے گئی۔

بندرگاہ پر جہاز میں سوار ہونے سے پہلے راجہ نے ناہید کو ہاتھوں میں لگا لیا اور اپنی موتیوں کی مالا اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی۔

جہازوں کے بادبان کھولے گئے اور ہوا کے جھونکے جہازوں کو دھکیلتے

تیسرے دن مستول پر سے دونوں جہازوں کے پہرے داروں نے یکے بعد دیگرے  
انہی شمال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دو جہازوں کی آمد کا پتہ دیا اور جہازوں پر نشان ہو کر  
تختہ جہاز پر کھڑے ہو گئے۔ دلپ سنگھ کا جہاز آگے تھا۔ وہ اپنے جہاز کو روکنے کا حکم دے  
کر زبیر کا جہاز قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب دونوں جہاز ایک دوسرے کے بہت  
ستھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو دلپ سنگھ نے کہا: ”مکن ہے وہ جہاز بحری  
ڈاکوؤں کے نہ ہوں، لیکن ہمیں مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ اپنا جہاز مغرب  
کی طرف لے جائیں، میں ان سے نمٹ لوں گا۔“

زبیر نے جواب دیا: ”نہیں ہم خطرے میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔“  
دلپ سنگھ نے کہا: ”مجھے آپ کی ہمت پر شبہ نہیں لیکن ہماری سب سے  
پہلی ذمہ داری بچوں کی جان بچانا ہے۔“

زبیر نے جواب دیا: ”اگر وہ واقعی بحری ڈاکو ہیں، تو ممکن ہے کہ مغرب کی طرف  
سے بھی انھوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہو۔ اس صورت میں بھاگ نکلنے کی بجائے  
لڑنا کم خطرناک ہوگا اور ہم سے یہ بھی ناممکن ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی جانیں خطرے میں  
چھوڑ کر بھاگ جائیں۔“

”آپ کی مرضی۔ تاہم عورتوں کو حکم دیں کہ وہ نیچے چلی جائیں۔“  
دلپ سنگھ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں کو ہدایات دینے میں مصروف ہو گیا۔  
زبیر نے خالد سے کہا: ”خالد! تم عورتوں اور بچوں کو نیچے لے جاؤ۔“  
دونوں جہازوں کے ملاح کیل کانٹے سے لیس ہو کر دور سے آنے والے جہازوں  
کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد دلپ سنگھ ایک جہاز کا سیاہ جھنڈا پہچان کر چلایا۔ ”یہ بحری  
ڈاکوؤں کے جہاز ہیں۔ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔“  
زبیر نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا: ”بھائیو! یہ عورتیں اور بچے ہمارے

ہوتا ہے۔“  
علی نے بھولے پن سے جواب دیا: ”سمندر کی تہ میں چلا جاتا ہے۔“  
ملاح اس جواب پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔  
باشم نے پھر کہا: ”واہ! یہ تو مجھے معلوم تھا۔ میں پوچھتا ہوں، لوگ کہاں جاتے  
ہیں۔“  
”لوگوں کو پھیلیاں کھا جاتی ہیں۔“

”جھوٹ! مچھلیوں کو تو آدمی کھاتے ہیں۔“  
علی نے پھر جواب دیا: ”زمین پر آدمی مچھلیوں کو کھاتے ہیں لیکن سمندر میں مچھلیاں  
آدمیوں کو کھا جاتی ہیں۔“  
باشم کچھ سمجھا اور کچھ نہ سمجھا اور واپس آکر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔

(۲)

چند دنوں کے بعد یہ جہاز مالابار کے ساحل کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔  
راستے میں سامان خوراک اور تازہ پانی حاصل کرنے کے لیے انھیں مغربی ساحل کی مختلف  
بندرگاہوں پر لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس دوران میں انھیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ مالابار کی ایک  
بندرگاہ پر چند عرب تاجروں نے زبیر کا خیر مقدم کیا اور گذشتہ طویل سفر میں تھکے ہوئے  
مسافروں کو چار دن کے لیے اپنے پاس ٹھہرایا۔ ان چار دنوں میں سرانڈیپ کے راجہ کے  
گرائفڈر تحائف کی خبر دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔

رضعت کے دن حاکم شہر بندرگاہ پر زبیر اور دلپ سنگھ سے ملا اور اس نے انھیں  
راستے میں بحری ڈاکوؤں کے حملے کے خطرے کے پیش نظر ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔  
دلپ سنگھ نے جواب دیا: ”آپ فکر نہ کریں! ہمارے جہاز پوری طرح مسلح ہیں۔“



یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ کر ایک سپاہی کے قریب بیٹھ گئی۔

کچھ دیر تیروں کی لڑائی ہوتی رہی۔ لیٹرے زیادہ قریب پہنچ کر جلتے ہوئے تیر پھینکنے لگے۔ دوسری طرف سے زبیر کی ہدایت کے مطابق ابراہیم اور عمر نے اپنی کشتیاں سیڑھی لیٹروں کے جہازوں کی طرف چھوڑ دیں اور قریب پہنچ کر جلتی ہوئی مشعلوں سے گھاس کو آگ لگائی اور خود پانی میں کود گئے۔ لیٹرے جو ہاتھوں میں کندیں لیے ہوئے اپنے حریف کے جہازوں پر کودنے کے لیے تیار کھڑے تھے بدحواس ہو کر کشتیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہوانے جھونکوں نے کشتیوں سے آگ کے مشعلوں کو جہازوں کے بادبازوں تک پہنچا دیا۔ ان کی آن میں لیٹروں کے دونوں جہازوں پر آگ بے قابو ہو چکی تھی اور وہ جیتے چلاتے سمندر میں پھلانگیں لگا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دلپت سنگھ اور زبیر کے آدمی تیر برسا رہے تھے۔ زبیر نے لیٹروں کا ایک جہاز اپنے جہاز کے بائیں قریب آنا دیکھ کر آگ کے خطرہ سے بچنے کے لیے ننگر اٹھانے کا حکم دیا لیکن اتنی میں آٹھ دس لیٹرے کندیں ڈال کر زبیر کے جہاز پر کودنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ زبیر کے ساتھیوں نے انھیں آڑے ہاتھوں لیا۔ لیٹروں کے جہاز سے ایک تیر آیا، اور زبیر کے بائیں بازو میں پوسٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ناہید کی کمان سے ایک تیر نکلا اور ایک لیٹرے کے سینے میں پوسٹ ہو گیا۔

زبیر نے مزاجاً کہا۔ ناہید نے نرگراں کی طرف دیکھا۔ زبیر کمان پھینک کر بازو سے تیر لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناہید نے جلدی سے کمان نیچے رکھ کر ایک ہاتھ سے زبیر کا بازو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے تیر پھینک کر نکال دیا۔ تیر کے نکلنے ہی زبیر کے بازو سے خون کی دھاری بہ نکلی۔ ناہید نے اس کی قمیص کی آستین اور چڑھائی اور جھٹ سے اپنے چہرے کا نقاب اتار کر زخم پر باندھ دیا۔

زبیر کا جہاز کندوں کی زد سے نکل چکا تھا اور جلتے ہوئے جہاز کے رہے سے

پاس آمانت ہیں۔ ہمیں انھیں سلامتی سے بصرہ پہنچانا ہے۔ اگر ہم پر ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہ ہوتی، تو ہمارا طریق جنگ اس طریقے سے مختلف ہوتا جو میں نے اب تجویز کیا ہے۔ میں ایک خطرناک مہم کے لیے تم میں سے دو رضاکار چاہتا ہوں۔“

اس پر سب سے پہلے خالد اور اس کے بعد تمام ملاحوں نے سیکے بعد دیکر اپنے نام پیش کیے۔ زبیر نے کہا۔ ”اس کام کے لیے دو بہترین تیراک درکار ہیں۔ میں یہ کام ابراہیم اور عمر کو سونپتا ہوں۔“

زبیر کی ہدایت پر دونوں جہازوں سے دو کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں اور ان کے ساتھ بادبان باندھے گئے۔ دلپت سنگھ کے جہاز پر ہاتھیوں کے لیے خشک گھاس موجود تھی۔ ملاحوں نے اس کے چند گٹھے اتار کر کشتیوں پر لادے۔ ابراہیم اور عمر ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کر کشتیوں پر سوار ہو گئے۔ اس کے بعد زبیر اور اس کے ساتھی ترکش اور کمانین سنبھال کر حملہ آوردوں کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگے۔ اگلے جہاز کا رخ دلپت سنگھ کے جہاز سے زیادہ زبیر کے جہاز کی طرف تھا۔ عمر اور ابراہیم کی کشتیاں ایک لمبا چکر کاٹ کر حملہ آوردوں کے عقب میں پہنچ چکی تھیں۔

زبیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتا ہوا اپنے ساتھیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ حملہ آور جہاز نے قریب آتے ہی زبیر کے جہاز پر تیر برسائے شروع کر دیتے اور ایک تیر سن نئے زبیر کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ آپ کسی محفوظ جگہ بیٹھ جائیے، ہم دشمن کے تیروں کی زد میں آپکے ہیں۔“

زبیر نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ناہید تیر و کمان ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ آنکھوں کے سوا اس کا بانی چہرہ نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ زبیر نے کہا۔ ”تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ نیچے! ناہید نے اطمینان سے جواب دیا۔ ”آپ میری فکوز کریں۔ میں تیر چھلانا جانتی ہوں“

کیا اور تلاح کشتی کو کھینچے ہوئے جہاز کے قریب آئے اور یکے بعد دیگرے رسی کی ٹیڑھی پر چڑھتے ہوئے ادرپڑ گئے۔ لڑکی کے چہرے سے علالت اور تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ خوش وضع اور خوش پوش نوجوان اس کا بازو پکڑ کر سہارا دے رہا تھا اور وہ سنسنیل سنسنیل کر ٹیڑھی پر پاؤں رکھ رہی تھی۔

جہاز پر پہنچ کر نوجوان نے ایک اجنبی زبان میں کچھ کہا اور لٹیروں کی طرف گھورنے لگا۔ زبیر نے اس کی زبان پوری طرح نہ سمجھتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ وہ لٹیروں کے مظالم کی شکایت اور اس کا شکر یہ ادا کر رہا ہے۔

زبیر نے اپنی استطاعت کے مطابق سندھ اور سرانڈیپ کی ملی جلی زبان میں اسے تسلی دی۔ نوجوان اور لڑکی اس کے دوستانہ لہجے سے متاثر ہو کر تشکر آمیز لگا ہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکی نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کی سہمی ہوئی آواز گلے میں ٹانگ کر رہ گئی وہ آنکھوں میں آنسو بھر کر زبیر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی عمر چودہ پندرہ سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ خوبصورت چہرہ دوپہر کے پھول کی طرح کھلایا ہوا تھا۔ زبیر نے پھر ایک بار ان دونوں کو تسلی ہی سب سے آخر میں ڈاکوؤں کا سردار جہاز پر پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسوؤں کی بجائے انتقام کی جلیاں تھیں۔

تھوڑی دیر میں دلہیپ سنگھ اپنے جہاز سے اتر کشتی کے ذریعے زبیر کے جہاز پر پہنچ گیا اس نے آتے ہی ڈاکوؤں کے سردار کو مارنے کے لیے چابک اٹھایا لیکن زبیر نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ دلہیپ سنگھ نے زبیر کی قمیص کی آستین کو خون آلود دیکھ کر پوچھا۔ ”آپ زخمی ہیں؟“

زبیر نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ”یہ معمولی زخم ہے۔“

خوش پوش نوجوان نے کچھ کہہ کر دلہیپ سنگھ کو اپنی طرف متوجہ کیا اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اس کے بعد دلہیپ سنگھ نے ڈاکوؤں کے سردار سے

ملاح مایوس ہو کر پانی میں چھلانگیں لگا رہے تھے۔ زبیر نے دوبارہ کمان اٹھائے ہوئے کہا۔ ”ناہید! اب تم غورتوں کے پاس جاؤ اور انھیں تسلی دو کہ ہم خدا کے فضل سے نفع حاصل کر چکے ہیں۔“

ناہید نے چلتے چلتے رک کر پوچھا۔ ”آپ کو تکلیف تو نہیں؟“

”نہیں یہ بہت معمولی زخم ہے۔ تم میری فکر نہ کرو۔“ یہ کہتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے زبیر کی نگاہیں غیر ارادی طور پر ناہید کے چہرے پر گزریں۔ سپاہیانہ وقار اس کے خرد و حال کی دلکشی میں اضافہ کر رہا تھا۔ ناہید نے اچانک محسوس کیا کہ وہ بے نقاب ہے، اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی نیچے اتر کر غورتوں کے پاس چلی گئی۔

چلتے چلتے ہونے جہاز سے چند آدمی اتر کر ایک کشتی پر سوار ہوئے اور ایک آدمی جو ڈاکوؤں کا سردار معلوم ہونا تھا، سفید جینڈا لہرائے لگا۔ زبیر نے تیر اندازوں کو ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ عمر اور ابراہیم اپنا کام کر کے جہاز کے قریب پہنچ چکے تھے۔ زبیر نے اپنے جہاز کو خطر سے محفوظ پا کر ننگر ڈالنے اور رسیوں کی سیڑھی نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ عمر اور ابراہیم جہاز پر چڑھ آئے۔ خالد نے زبیر کو دلہیپ سنگھ کے ساتھیوں کی طرف متوجہ کیا، جو ابھی تک سمندر میں غوطے کھانے والے دستوں پر تیروں کی مشق کر رہے تھے۔

زبیر نے انہیں بھی ہاتھ کے اشارے سے منع کیا اور لٹیروں کے قدرے مطمئن ہو کر سیڑھی کے ذریعے جہاز پر چڑھنے لگے۔ سب سے آخر میں لٹیروں کے سردار کی کشتی دونوں جہازوں کے درمیان آ کر ٹکی۔ ایک قوی میکل اور عمر آدمی جس کی دائرھی کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے، زخمی شیر کی طرح جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔

اس کشتی میں زبیر کی نظر ایک نوجوان اور ایک لڑکی پر پڑی۔ دونوں شکل و صورت اور لباس کے اعتبار سے لٹیروں سے بہت مختلف تھے۔

زبیر نے قوی جھل اور تارعب آدمی کو ڈاکوؤں کا سردار سمجھ کر اس کی طرف اشارہ

یہ وہ زمانہ تھا جب کہ سندھ کے راجہ نے اپنا حلقہ اقتدار وسیع کرنے کے لیے پڑوس  
کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں سے چھپر چھاڑ شروع کر رکھی تھی اور خود مختار سردار اور راجے  
اسے اپنا طاقت ور مہایہ تسلیم کرنے کے ثبوت میں اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اس کی نذر کیا کرتے  
تھے۔ کاٹھیا دار کے راجہ کو اگرچہ براہ راست سندھ کے راجہ سے کوئی خط نہ  
نہ تھا۔ تاہم وہ کچھ سونے اور چاندی کے عوض اسے اپنا دوست بنا کر عنایت سمجھتا  
تھا۔

جے رام کو اپنے دربار میں کوئی عمدہ دینے کی بجائے اس نے سندھ میں اس کے  
اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا زیادہ مناسب خیال کیا، اور اسے سونے، جواہرات اور موتیوں  
کا ایک صندوق دے کر سندھ کے راجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ جے رام کو یقین تھا کہ راجہ  
دراہے واپس نہ آئے دے گا۔ اس لیے اس نے اپنی اکیلی بہن مایا دیوی کو گھر پر چھوڑنا  
مناسب نہ سمجھا۔ مایا دیوی بھی اس کے ساتھ جانے پر رضہ تھی۔ اس لیے یہ دونوں اپنا  
گھر بار چھوڑ کر بھائی کے سپرد کر کے سندھ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن کاٹھیا دار اور سندھ  
کے درمیان ان کے جہاز کو بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ بہادری  
سے لڑے لیکن ڈاکوؤں کے سامنے ان کی پیش نہ گئی۔ ڈاکوؤں نے جواہرات کے  
صندوق پر قبضہ کر لیا، جے رام اور مایا دیوی کے سوا ان کے باقی ساتھیوں کو سمندر کے  
کنارے لاکر آزاد کر دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ سمجھا تھا کہ جے رام اور مایا دیوی راجہ  
کاٹھیا دار کے عزیز ہیں اور وہ ان کی جان بچانے کے لیے ایک معقول رقم ادا کرنے  
پر آمادہ ہو جائے گا اس لیے وہ کاٹھیا دار کے ساحل کے غیر آباد حصے پر ننگر انداز  
ہو کر راجہ سے یہ سودا کرنا چاہتا تھا لیکن ان کے ایک جاہل دوست نے اسے سمندر  
کے جہازوں کی آمد کی خبر کر دی، اور اس نے کاٹھیا دار ٹھہرنے کی بجائے بلا بار  
کارخ کیا۔

چند باتیں کرنے کے بعد عربی زبان میں زیر کے ساتھیوں سے کہا۔ ”کشتی میں ایک  
صندوق پڑا ہوا ہے اسے اوپر لے آؤ۔“

ملاحوں نے صندوق کی کڑی کے چھوٹے سنے صندوق کو رستے کے ساتھ باندھ کر اوپر  
کھینچ لیا۔ دلیپ سنگھ نے ڈھلکا اوپر اٹھایا اور تمام ملاح حیران ہو کر سونے موتیوں اور جواہرات  
سے بھرے ہوئے صندوق کو دیکھنے لگے۔

زیر کے استفسار پر دلیپ سنگھ نے خوش پوش نوجوان سے چند سوالات اور پوچھے  
اور اس نے اپنی آپ بیتی سنائی :-

(مع)

نوجوان کا نام جے رام تھا۔ وہ کاٹھیا دار کے ایک عالی نسب راجپوت خاندان  
کا پینٹم وچراغ تھا۔ اوائل شباب میں اسے شہرت اور ناموری کا شوق سر زمین سندھ تک لے  
گیا۔ برہمن بکاد کے ایک میلے میں اس نے تیر اندازی میں اپنے کمالات دکھا کر سندھ کے راجہ  
کو اپنا قدر دان بنا لیا۔ راجہ نے اسے اپنی فوج میں ایک معمولی عہدہ دے کر اپنے  
پاس رکھ لیا۔ دو سال کی خدمت گزاری کے بعد جے رام نے دیبل کے نائب حاکم کی جگہ  
حاصل کر لی۔ دیبل میں آئے ہوئے اسے ایک ہفتہ نہ ہوا تھا کہ گھر سے اسے اپنے باپ  
کی وفات اور ماں کی علالت کی خبر ملی اور وہ چند ماہ کی رخصت لے کر کاٹھیا دار پہنچا۔ گھر  
پہنچنے کے دس دن بعد اس کی والدہ بھی چل بسی۔ گھر میں اب صرف اس کی ایک  
چھوٹی بہن مایا دیوی تھی۔ جے رام نے رشتہ داروں کی نصیحت اور مایا دیوی کے آنسوؤں  
سے متاثر ہو کر واپس سندھ جانے کا خیال چھوڑ دیا، لیکن چار ماہ گھر میں قیام کرنے کے بعد اسے  
اپنی پرسکون زندگی تلخ محسوس ہونے لگی اور ایک دن اس نے کاٹھیا دار کے راجہ  
کی خدمت میں حاضر ہو کر ملازمت کی درخواست کی۔

جہازوں کی دوبارہ روانگی سے پہلے لیٹروں کے سردار کے سوا باقی تمام قیدیوں کو دلیپ سنگھ کے جہاز میں منتقل کر دیا گیا۔ زبیر نے دلیپ سنگھ سے تاکید کی کہ جب تک ان کی سزا کا فیصلہ نہ ہو ان کے ساتھ برسلو کی سزا کی جلتے، ڈاکوؤں کے سردار کو اس کے ساتھیوں کی نیک چلنی کی ضمانت کے طور پر زبیر نے اپنے جہاز پر بٹھرا لیا۔ جے رام نے اپنی بہن کی علالت کے پیش نظر زبیر کے جہاز پر رہنا پسند کیا۔

خالد نے ماد دوی کو ناہید کے پاس پہنچا دیا۔ ناہید نے اسے ایک بستری پر لٹا دیا اور عرب غور میں اس کے گرد جمع ہو گئیں۔ پہلی ملاقات میں میزبانوں اور چھانوں کے درمیان فقط اشیاءوں سے ہمدردی اور شکر کے جذبات کی ترجمانی ہوئی۔ دلیپ سنگھ نے اپنے جہاز پر جانے سے پہلے جے رام سے کہا - "آپ کو شاید کھانے کی تکلیف ہو۔ میں ایک رات مسلمانوں کے ساتھ رہ کر چھت چھات کا قائل نہیں رہا۔ ہم سب ایک ہی دسترخوان پر کھاتے ہیں۔ میرے ساتھ چلنے

آدمی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو مسلمانوں کے ساتھ نہ کھا چکا ہو۔ تاہم میرا ایک آدمی ہے میں اس جہاز پر چھوڑ رہا ہوں آپ دونوں کے لیے کھانا تیار کرے گا اور آپ کے میزبان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کو اپنے دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے مجبور نہیں کریں گے۔"

دلیپ سنگھ نے چند باتیں زبیر کو سمجھائیں اور اتر کر اپنے جہاز پر چلا گیا اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے ساتھی اپنے کنداستروں سے پانچ سفید ریش لیٹروں کے سر اور داڑھیاں، موچھیں اور بھنوںیوں مونڈ چکے تھے۔ ایک ڈاکو جو شعل و صورت سے زیادہ عمر معلوم ہوتا تھا۔ اس کی صرف آدمی داڑھی، ایک موچھ اور آدھا سر صاف کرنے پر اکتفا کیا گیا تھا۔

دبیر نے یہ قصہ سن کر پھر ایک بار جے رام اور اس کی بہن کو تسلی دی اور کہا - "ویرٹیٹے جیسے ہمارے مجرم ہیں ویسے ہی آپ کے مجرم ہیں۔ میں نے ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا کہ انہیں کیا سزا دی جائے۔ تاہم میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ملک میں انہیں کیا سزا دی جاتی ہے؟"

جے رام نے جواب دیا - "ایسے ظالم ڈاکوؤں کے لیے ہمارے قانون میں اور آپ کے قانون میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے تاہم جب ان لوگوں سے آپ کا مقابلہ

ہوا تھا تو جے اور میری بہن کو ہماز کے ایک کونے میں بند کر دیا گیا تھا اور جہاز کو آگ لگ جانے کے بعد یہ لوگ ہیں وہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اپنے لیے میں شاہراہ ان سے رحم کی درخواست نہ کرنا لیکن ابھی بہن کے لیے مجھے عاجز ہونا پڑا اور ان لوگوں نے ہمیں سختی سے سزا کرنے سے پہلے یہ وعدہ کیا کہ میں آپ سے ان لوگوں کی جان بخشی کے لیے سفارش کروں گا، میرا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا جائے۔ میں انہیں صرف موت کی سزا سے بچانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ جب تک ان کے راہ راست پر آجائے گا اطمینان نہ ہوا انہیں قید میں رکھا جائے۔"

ماد دوی علالت کی وجہ سے دیر تک کڑی بڑھ کی۔ اس نے اپنے بھائی سے کچھ کہا اور میسر اس کے کہ وہ کوئی جواب دیتا۔ دلیپ سنگھ نے کہا - "اوپر ہو ہمیں یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کی بہن سلیل ہیں۔ خالد بیٹا! انہیں اپنی بہن کے پاس لے جاؤ۔"

خالد آگے بڑھا اور بیٹا دوی اپنے بھائی کی طرف دیکھنے لگی تب سے رام نے دلیپ سے پوچھا - "اس جہاز پر غور میں ہی ہیں؟"

"جی ہاں آپ کی بہن کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہوگی۔ ہاں یہی جاؤ تاہم آرام کرنے کے لیے۔"

ناہید اور دوسری عرب عورتوں نے دل و جان سے مایا دیوی کی تیمارداری کی یہی  
بخار کے لیے ناہید سرانڈیپ سے چند بڑی بوٹیاں اپنے ساتھ لائی تھی ان کے استعمال سے  
مایا دیوی تین چار دن میں تندرست ہوئی۔

ذہیر نے اپنے بازو کے زخم کو معمولی سمجھ کر شروع شروع میں چنداں پروا نہ کی لیکن  
مضطرب ہوا کے باعث زخم میں تیسرے دن پیپ لڑگی اور اسے درد کی شدت اور بخار  
کی وجہ سے چند دن بستر لیٹنا پڑا۔

ولیب سنگھ کی بارہا پناہ جواز چھوڑ کر اس کی تیمارداری کے لیے آیا۔ علی، خالد اور ہاشم  
ناہید اور دوسری عرب عورتوں کو ہر آن اس کی حالت سے باخبر رکھتے تھے۔ جبے رام ہر وقت  
اس کے پاس بیٹھا رہتا۔ مایا دیوی ایک عورت کی دکاوت صحت کی بدولت ناہید کے مغموم اور  
پریشان رہنے کی وجہ سمجھتی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں کبھی کبھی ذہیر کو دیکھ آتی اور واپس  
اگر اشاروں اور عری کے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں جنھیں وہ دن رات عرب عورتوں کی  
صحت میں رہ کر یاد کر چکی تھی۔ ناہید کو تسلی دیتی۔

ایک شام ذہیر کی حالت قدرے بخیر تھی۔ ولیب سنگھ آیا اور زخم کی مرہم لپی  
کرتے کے بعد چلا گیا۔ رات کے وقت مطلع ابر لڑا تھا اور ہوا تیز تھی تلاح اپنی اپنی جگہ پر  
متعین تھے۔ جبے رام، خالد اور علی ذہیر کی تیمارداری کر رہے تھے۔

عرب عورتیں عشاق کی ناز کے لیے انھیں اور مایا دیوی اپنے بھائی سے ذہیر کا حال  
پوچھنے چلی گئی۔ جب ناہید ناز سے فارغ ہو کر ذہیر کی صحت کے لیے دعا کر رہی تھی خالد نے  
اکڑتایا کہ ذہیر بیہوش ہے۔

ایک عمر رسیدہ عورت نے کہا: ہمارے تمام آدمی انڈھی کی وجہ سے ہمارے ہر طرف  
ہیں۔ ہمیں ان کے پاس ضرور جانا چاہیے۔

تمام عورتیں اٹھ کر ذہیر کے پاس پہنچیں۔ مایا دیوی نے انھیں دیکھ کر اپنے بھائی

کی طرف اشارہ کیا اور زور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ جبے رام نے کسی رات میں آنکھوں میں کائی تھیں  
وہ باہر نکلے ہی جہاز کے ایک کونے میں لیٹ کر گہری نیند سو گیا۔

اچھی رات کے وقت ذہیر کا بخار قدرے کم ہوا، اور ناہید اور مایا دیوی کے علاوہ  
باقی عورتیں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ خالد اور علی وہیں لیٹ گئے۔ رات کے  
دورات کے تیسرے پہر ذہیر نے آنکھیں کھولیں اور شمس کی روشنی میں مایا دیوی اور  
ناہید کو دیکھ کر پوچھا: آپ یہاں؟ جاب میں آرام کریں، یہ سب کھٹکھٹک کر چپکے چپکے  
ان ناہید کا سر جھایا ہوا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور اس نے سوال کیا: اور آپ  
اب کیسے ہیں؟

بے شمار اور میں اب ٹھیک ہوں۔ مجھے پانی دیجیے۔  
مایا دیوی نے اٹھ کر صحن سے پانی کا پیالہ لے کر ناہید کے ہاتھ میں دے دیا۔  
ناہید نے چمکیا تے ہوئے ایک ہاتھ سے ذہیر کے سر کو سہارا دے کر اٹھایا اور وہ سر  
ہاتھ سے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔  
ذہیر نے پانی پی کر پھر کیسے پرسر رکھ دیا اور ناہید سے کہا: ان کے بھائی نے میرے  
لیے بہت تکلیف اٹھائی۔ وہ اب کہاں ہیں؟

وہ باہر سو رہے ہیں۔  
آپ بھی جا کر سوئیں۔ مجھے اب آرام ہے۔ ولیب سنگھ کے سنے مرہم نے بہت  
فائدہ کیا ہے۔

(۵) آپ ان کے پاس آئیں اور ان کی تیمارداری کریں۔

چند دنوں کے بعد ذہیر چلے پھرنے کے قابل ہو گیا۔ عربوں کا خلق ہے رام کو بہت  
متاثر کر چکا تھا۔ ذہیر نے اس کا سن، انجانی درجے کی عقیدت اور محبت کی حد تک پہنچ چکا

نماز کے لیے کھڑے ہوتے۔ وہ ان ارادوں کے باوجود اٹھ کر عرشے پر چلی جاتی اور ایک طرف کھڑی ہو کر تنگیوں سمندر کی لہروں سے دل بہلانے کی کوشش کرتی لیکن جلد ہی اکتا کر منہ پھیر لیتی اور نمازیوں کی طرف دیکھتی غیر شعوری طور پر اس کی نگاہیں خالد پر مرکوز ہوجاتیں۔ خالد کی وجہ سے اسے دوسرے نمازیوں کا رکوع و سجود پسند آتا۔ نماز کے بعد خالد کے ہاتھ بلند ہوتے دیکھ کر اسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا طریقہ دکش معلوم ہوتا۔

اسلام کے ساتھ اس کی پہلی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔

اس کی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔

اس کی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔

اس کی دلچسپی اس لیے تھی کہ یہ خالد کا دین تھا۔ عربی زبان وہ اس لیے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی کہ یہ خالد کی زبان تھی۔

تھا۔ وہ زبیر سے عرب کے تازہ حالات کے متعلق کافی واقفیت حاصل کر چکا تھا۔ عربوں کے نئے دین میں انسانی مساوات کے خیال نے اسے شروع شروع میں بہت پریشان کیا لیکن زبیر کی تبلیغ سے وہ جلد ہی اس بات کا قائل ہو گیا کہ دنیا بھر میں قیام امن کے لیے تمام اقوام کا کسی ایسے دین کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جو ہر انسان کو مساوی حقوق دیتا ہو۔ جو تمام انسانوں کو رنگ و خون اور نسل سے نہیں بلکہ اعمال سے پہچانتا ہو۔ ابتدا میں اس نے کھانے پینے کے معاملے میں مسلمانوں کی چھوٹ سے پرہیز کیا لیکن چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر اسے چھوٹ اور اچھوت کا امتیاز مضحکہ خیز نظر آنے لگا اور ایک دن وہ اپنی بہن سے مشورہ کیے بغیر زبیر کے دسترخوان پر بیٹھ گیا۔

مایا دلوی میں اپنے بھائی سے بھی پہلے ایک ذمی انقلاب آچکا تھا اور اس انقلاب کی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ اپنے بھائی کی طرح اسلام کی تعلیم سے واقف ہو چکی تھی بلکہ اس کی وجہ غریبوں کا وہ اخلاق تھا۔ جس نے ایک ننیز را چھوٹ بڑی کو یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ایک اجنبی قوم کے انسانوں کے رحم پر ہے۔ مسلمان ملاح اسے دیکھتے اور انکھیں جھکا لیتے۔ پہلے ہی دن وہ یہ محسوس کرنے لگی کہ ان سب کی نگاہیں اس کے بھائی کی نگاہوں سے مختلف نہیں۔

ناجید کی تیمار داری نے بھی اسے بہت متاثر کیا تھا۔ ان سب سے زیادہ وہ خالد کے طرز عمل سے متاثر تھی۔ نہ جانے کیوں اس کی نگاہیں اسے دیکھنے اور کان اس کی آواز کو سننے کے لیے ہمیشہ اترتے اور جب وہ سامنے آتا اسے آنکھ اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ وہ بے پروائی سے منہ پھیر کر گزر جاتا اور وہ دیر تک اپنے دل کی دھڑکنیں سنتی رہتی۔ کبھی طرح طرح کے خیالات سے پریشان ہو کر وہ اپنے آپ کو کوستی۔

رات کے وقت وہ اپنے ہم عمر لڑکے سے مرعوب ہونے کے بجائے اسے نفرت اور حقارت اور بے پروائی سے دیکھنے کا ارادہ لے کر سوتی لیکن صبح کی آذان کے بعد جب عرب

اس نے جواب دیا۔ "میرے جہاز غرق ہو چکے ہیں اور اب میں بڑھاپے کے باقی دن کسی جنگل میں چھپ کر گزارنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں۔"

"ڈاکو ہر جگہ خطرناک بن سکتا ہے۔ تم سمندر میں جہازوں کو لوٹتے تھے جنگلی پر لوگوں کے گھروں میں ڈانکے ڈالو گے اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کالے جائیں گے اور اگر تمہارا فیصلہ ہے رام پر چھوڑوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی گھنٹی میں گزارنی پڑے گی۔"

ڈاکوؤں کے سردار نے جواب دیا۔ "میں آپ کی حکومت کے متعلق کچھ نہیں جانتا لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ دیل کی حکومت کو بچھے سزا دینے کا کوئی حق نہیں۔"

"وہ کیوں؟"

"وہ اس لیے کہ میں گذشتہ چند برس جو کچھ سمندر میں اپنے جہاز پر سوار ہو کر کرتا رہا ہوں۔ وہی کچھ سندھ کا راجہ تخت پر بیٹھ کر کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے اہل کار کمزور اور عزیز آدمیوں کو لوٹتے ہیں اور میرے ساتھی چھوٹی چھوٹی کشتیوں کی بجائے صرف بڑے بڑے جہازوں کو لوٹتے ہیں۔ ہمارا پیشہ ایک ہے لیکن نام ہمارے مختلف ہیں۔ میں ایک ڈاکو ہوں اور وہ ایک راجہ۔ اس کی طرح اس کا باپ بھی راجہ تھا لیکن میرا باپ میری طرح ایک ڈاکو نہ تھا۔ میں خود بھی ایک ڈاکو نہ بنا لیکن ظلم نے مجھے ایسا بنا دیا۔ خیر ان باتوں کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ غالب میں اور میں مغلوب۔ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سندھ کی حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے خود جو سزا چاہیں دے لیں۔"

زیر نے کہا۔ "میں تمہاری سرگذشت سننا چاہتا ہوں۔"

ڈاکوؤں کے سردار نے قدرے تامل کے بعد مختصر الفاظ میں اپنی سرگذشت یوں

بیان کی :-

میں نے اپنے جہاز پر اپنے جہازوں کو لوٹتے تھے جنگلی پر لوگوں کے گھروں میں ڈانکے ڈالو گے اگر میں تمہیں بصرہ لے جاؤں تو وہاں غالباً تمہارے ہاتھ کالے جائیں گے اور اگر تمہارا فیصلہ ہے رام پر چھوڑوں تو باقی عمر تمہیں قید خانے کی گھنٹی میں گزارنی پڑے گی۔

## گنگو اور اس کی سرگزشت

ڈاکوؤں کے سردار کو پابہ زنجیر رکھا گیا تھا۔ دلپنگہ کی ہدایت تھی کہ اس پر کبھی قسم کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اسے دونوں وقت کھانا پہنچانے کا کام علی کے سپرد تھا اور علی کو ہر وقت یہ نگرہ رہتی کہ شاید اس کا پیٹ نہیں بھرے اور ہر کھانے پر بڑھے سردار کو علی کے اصرار پر ایک دو لقمے زیادہ ہی کھانے پڑتے۔

زیر کا سلوک بھی اس کی توقع کے خلاف تھا۔ زیر دن میں ایک دو دفتر ضرور اس کے پاس آتا۔ پہلی بار اس نے اپنی ٹوٹی چھوٹی سندھی میں باتیں کرنے کی کوشش کی لیکن اسے جلد ہی یہ معلوم ہو گیا کہ وہ ہرنی میں بے تکلفی سے بات چیت کر سکتا ہے۔

ایک دن اس نے زیر سے کہا۔ "موت کے انتظار میں جینا میرے لیے بہت صبر آزما ہے۔ اگر آپ مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو سزا ملنی ہے جلد مل جائے۔"

زیر نے جواب دیا۔ "مجھے تمہارے بڑھاپے پر راز آتا ہے لیکن تمہیں اس وقت تک قید سے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ جب تک مجھے یہ یقین نہ ہو کہ تم آزاد ہو کر پھر یہی پیشہ اختیار نہ کر لو گے۔"

وہ چند سہاپنوں کے ساتھ دریا پر آیا، اور مجھے پار لے جانے کے لیے کہا۔ کشتی پر سوار ہو کر وہ لاجو کو بری طرح گھوڑا رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے بتایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ بولا، کیسی ماہی گیری لڑکی معلوم نہیں ہوتی تم اسے کہاں سے لائے؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے کنارے پر پہنچ کر اس نے مجھے بتایا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ تم اتنی دیر میرا انتظار کرو۔ لیکن وہ شام سے پہلے ہی واپس آ گیا اور میں نے اسے دوسرے کنارے پہنچا دیا۔ وہ میرا نام پوچھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمارے گاؤں کے ماہی گیروں کا شکار دیکھنے کے بہانے کبھی کبھی ہمارے گاؤں میں چلا آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اپنے ساتھ بے تکلفی سے پیش آتا دیکھ کر خوش ہوتے لیکن لاجو نے ایک دن مجھ سے کہا کہ اس کی نیت درست نہیں۔ وہ میری طرف بہت بڑی نظروں سے دیکھتا ہے۔

ایک شام لاجو حسب معمول کشتی پر کھانا پکا رہی تھی۔ وہ گھوڑے پر آیا اور مجھ سے کہنے لگا: تمہارے پاس کوئی تازہ شکار ہو تو لاؤ۔ میں نے تھوڑی دیر پیشتر دو بڑی مچھلیاں پکڑی تھیں۔ وہ میں نے اسے پیش کیں۔ اس نے مجھے مچھلیاں اٹھا کر اپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ شہر ورتہ تھا، اور میں نے لاجو سے کہا: میں کھانا تیار ہونے تک آ جاؤں گا۔ میں اس کے گھوڑے کے پیچھے چل رہا تھا کہ راستے میں جھاڑیوں کی آڑ سے چند آدمی نمودار ہوئے اور مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے ان کی گرفت سے آزاد ہونے کی جدوجہد کی لیکن کسی نے میرے سر پر لاٹھی ماری اور میں تیوراً گر پڑا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک تاریک کوٹھری میں پڑا ہوا تھا:

(۱۳)

”دو دن میں بھوکا اور پیاسا جان کنی کی حالت میں وہاں پڑا رہا۔ تیسرے دن کوٹھری

میرا نام گنگو ہے۔ میں دریائے سندھ کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ اپنے باپ کی طرح میرا بھی پیشہ ماہی گیری تھا۔ میں سال کی عمر میں میرے سر سے والدین کا سایہ اٹھ گیا۔ ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی۔ اس کا نام لاجوئی تھا اور وہ بھی لاجوئی تھی۔ اس کی آنکھیں ہرنی کی آنکھوں سے زیادہ دلنریب اور اس کی آواز کوئل کی آواز سے زیادہ مسیبتی تھی۔ لوگ اسے بل پری کہا کرتے تھے۔ گاؤں میں کوئی نوجوان ایسا نہ تھا جو لاجو پر جان دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ لیکن وہ صرف مجھے چاہتی تھی اس کا باپ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ برسات میں ایک دفعہ دریا زوروں پر تھا، تو اس نے شرط لگائی کہ میں لاجو کی شادی اس کے ساتھ کروں گا جو تیرے دریا عبور کرنے گا۔ ہمارے گاؤں میں اچھے اچھے تیراک تھے لیکن برسات میں دریا کا بہاؤ دیکھ کر کسی کو پانی میں کودنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میں لاجو کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار تھا۔ میں نے یہ شرط پوری کی اور چند دنوں کے بعد میری اور اس کی شادی ہو گئی۔

ہم دونوں خوش تھے، اور زیادہ وقت کشتی پر گزارتے تھے۔ میں مچھلیاں پکڑا کرتا تھا وہ کھانا پکھا کرتی تھی، رات کے وقت ہم بہتے بہتے اور گاتے گاتے، تاروں کی چھاؤں میں سو جاتے۔ عجیب دن تھے وہ بھی۔

یہاں تک کہ گنگو کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور دیر تک مچھلیاں لینے کے بعد اس نے پھر اپنی داستان شروع کی۔

”لیکن ایک دن ایسا آیا کہ مجھے لاجو سے جدا ہونا پڑا۔ ہمیشہ کے لیے مجھے معلوم نہ تھا کہ ایک بیچ ذات اور کمزور آدمی کے لیے ایک خوبصورت بیوی رکھنا پاپ ہے ہمارے گاؤں سے ایک کوس کے فاصلے پر ہمارے علاقے کے سردار کا شہر تھا۔ ایک دن



تدبیر سوچ سکو۔“

اس کے آنسوؤں اور آہوں نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ میں نے اسے پھر گلے لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ میں جلد آؤں گا۔ میں اس عمل کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔“

قید خانے کا دروازہ پھر کھلا، سپاہیوں کی بجائے وہ ظالم بیٹریا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نئی تلوار نہ ہوتی تو میں یقیناً اس پر حملہ کر دیتا۔ اس نے آتے ہی لاجو سے کہا: ”اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے۔“ لاجو نے جواب دیا۔ ”اگر میں آپ کی شرط مان لوں، تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ یہ زندہ اور سلامت شہر سے نکل جائیں گے؟“ اس نے کہا: ”میں وعدہ کرتا ہوں۔“

لاجو آنسو بہاتی ہوئی اس کے ساتھ چلی گئی اور مجھے چار سپاہی شہر سے باہر لے گئے۔ ان کے ہاتھوں میں نئی تلواں تھیں۔ مجھے سردار کے وعدے پر اعتبار نہ تھا۔ شہر سے باہر نکل کر جب ہم اس جنگل میں پہنچے جو دریا کے کنارے دور تک پھیلا ہوا تھا تو ایک شخص نے بیچھے سے اچانک مجھ پر وار کیا۔ مجھے پہلے ہی اس حملے کی توقع تھی اس لیے میں نے ایک طرف کود کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ اس پر چاروں آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے لیکن میں بھاگنے میں ان سے تیز تھا میں جلد ہی جنگل میں پہنچ کر ایک جھاڑی کے نیچے چھپ گیا۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔

شام ہو رہی تھی، میں چھپتا چھپاتا دریا کے کنارے پہنچا۔ میری کشتی بل رہی تھی اور دریا کے کنارے وہ چاروں سپاہی کھڑے تھے۔ ان واقعات نے میرے جیسے امن پسند آدمی کو ایک بیٹریا بنا دیا۔ میں گاؤں کی طرف بھاگا۔ میری آواز میں ایک اثر

کا دروازہ کھلا اور لاجو تھی کے ساتھ تین آدمی جن میں سے ایک کھانا اور پانی اٹھائے ہوئے تھا، اور دو کے ہاتھوں میں نئی تلواں تھیں، کوٹھری میں داخل ہوئے۔ لاجو کا رنگ زرد تھا اور اس کی آنکھیں دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آنسوؤں کا تمام ذخیرہ ختم ہو چکا ہے اس کا نگاہ پڑتے ہی بھوک اور پیاس بھول گئی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ بھاگ کر اس سے لپٹ جاؤں لیکن میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے لاجو نے سپاہیوں کی طرف دیکھا اور وہ تلواروں سے میری رسیاں کاٹ کر باہر نکل گئے۔

میں نے پوچھا: ”لاجو! تم یہاں کیسے پہنچیں؟“ اور وہ ہونٹ بھینچ کر اپنی چیخوں کو ضبط کرتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی لیکن اچانک اس نے خوفزدہ ہو کر مجھے چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے چلے آنے سے تھوڑی دیر بعد چند آدمیوں نے کشتی پر حملہ کیا اور اسے کپڑ کر سردار کے پاس لے گئے۔ اسے میرا حال معلوم نہ تھا اور وہ بے غیرتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دینا چاہتی تھی لیکن سردار نے اسے میری قید کا حال بتا کر یہ دھمکی دی کہ تو اگر اس کے عمل میں بے حیائی کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمادہ نہ ہونی تو تیرا شوہر اس کوٹھری میں بھوکا اور پیاسا اڑیاں دکڑا دکڑا کر مرجائے گا۔ اب وہ میرے پاس آئی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ گنگو تم آزاد ہو۔ تم جاؤ اور یہ سمجھو کہ تمہاری لاجو مر گئی۔ وہ اپنی عصمت سے میری آزادی کا سودا کرنا چاہتی تھی لیکن میں نے اسے غلط سمجھا۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ ایک غریب ملاح کی کشتی چھوڑ کر محلوں میں رہنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، گالیاں دیں اور ان ظالم ہاتھوں سے چند تھپڑ بھی مارے لیکن وہ پتھر کی مورتی کی طرح کھڑی یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ اس نے صرف یہ کہا: ”گنگو! میں بے عورتی کی زندگی پر موت کو ترجیح دوں گی لیکن میں یہاں سے لیے آئی ہوں کہ مجھے تمہاری جان اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ بھگوان کے لئے تم جاؤ! یہ موقع نہ گناؤ۔ ممکن ہے کہ تم آزاد ہو کر مجھے اس ظالم کے بچے سے چھڑانے کی کوئی

جنگ کرنے میں بھی شاید تم حق بجانب سمجھے جاسکو گے لیکن تم ایک انسان کے ظلم کا بدلہ دوسرے انسان سے کیسے لے سکتے ہو؟ تم نے ہمارے جہاز پر حملہ کیا اور اس پر کوئی سردار سوار نہ تھا۔ اس پر چند یتیم بچے اور عورتیں تھیں۔“

گنگو نے جواب دیا: ”مجھے افسوس ہے لیکن دوسرے جہاز پر سرانڈیپ کے راجہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور آپ اس کے معاون تھے تاہم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کے جہاز پر عورتیں اور بچے سوار ہیں تو میں حملہ نہ کرتا۔ چند ماہ ہوئے میں نے اسی سمندر میں آپ کے ملک کا ایک جہاز دیکھا تھا لیکن میں نے اسے صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ اس پر مردوں کے علاوہ چند عورتیں بھی تھیں۔“

خالہ رین کرچلا اٹھا۔ ”کیا اس پر سرانڈیپ کے چند ملاح تھے؟“

”ہاں!“

”وہ تو ابا کا جہاز تھا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ تم جھوٹ کہتے ہو تم ان کا جہاز غرق کر چکے ہو۔“

گنگو نے جواب دیا۔ ”اگر میں اس جہاز کو غرق کر چکا ہوتا۔ تو مجھے آپ کے سامنے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہ تھی۔“

”اس جہاز پر ہاتھی بھی تھے؟“

”ہاں!“

”تمہیں اس کے متعلق یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں غرق ہوا؟“

”نہیں مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ جہاز دیبل تک صحیح سلامت پہنچ گیا تھا۔“

زیر نے پوچھا۔ ”اس سمندر میں تمہارے سوالیہوں کا کوئی اور گروہ بھی ہے؟“

تھا اور ان کی آن میں چند نوجوان لاشیاں اور کھانڈیاں لے کر میرے ساتھ نکل آئے ہیں دیکھ کر سپاہی سر اسیر ہو کر کھانڈیوں کے لیے کسی کو بیچ نکلنے کا راستہ نہ دیا اور چاروں کو مار کر ان کی لاشیں دریا میں پھینک دیں۔ آدھی رات تک میں نے ماہی گیری کی بسیں پکھیس بسیتوں سے کوئی دو سو جوان اکٹھے کر لیے اور تیسرے پہر سردار کے محل پر دھاوا بول دیا۔ شہر کے لوگ پہلے ہی اس کے مظالم سے تنگ تھے کوئی اس کی مدد کے لیے نہ نکلا۔ اس کے چند سپاہیوں نے مقابلہ کیا لیکن اکثر نے بھاگ کر لوگوں کے گھروں میں پناہ لی۔ ہم نے سردار کو پکڑ لیا اور اس سے لاجو کے متعلق پوچھا وہ ہر سوال پر صرف یہ جواب دیتا تھا۔ ”میں بے قصور ہوں۔ بھگوان کے لیے مجھے چھوڑ دو میں نے مشعل دکھا کر اسے زندہ جلا دینے کی دھمکی دی تو وہ مجھے محل کی پختی منزل کے ایک کمرے میں لے گیا۔ فرش پر لاجو کی لاش دیکھ کر میری چیخ نکل گئی وہ ہاتھ باندھ کر یہ کہہ رہا تھا۔ ”میں نے اسے نہیں مارا اس نے خود مکان کی چھت سے چھلانگ لگا دی تھی۔ تم سپاہیوں سے پوچھ سکتے ہو۔ بھگوان کے لیے مجھ پر دیا کرو۔“ میں نے جلتی ہوئی مشعل اس کی آنکھوں میں بھونک دی اور کھانڈی کی پے درپے ضربوں سے اسے ٹھٹھے کر دیے۔

اس کے بعد میں ایک ڈاکو تھا۔ میرے دل میں کسی کے لیے رحم نہ تھا۔ میں نے کئی سرداروں کو لوٹا اور جب راجہ کی فوجوں نے زمین ہمارے لیے تیگ کر دی۔ میں نے دریا کے راستے سمندر کا رخ کیا۔ دیبل کی بندرگاہ سے ہم نے رات کے وقت دو جہاز چوری کیے اس کے بعد میں اب تک کئی جہاز لوٹ چکا ہوں۔ میں ہر اس شخص کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں، جو راجوں اور سرداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ مجھے ہر دولت مند انسان میں اس سردار کی روح نظر آتی ہے۔ مجھے ہر اونچے ایوان میں لاجو جیسی مظلوم لڑکیوں کی روحیں انتقام کے لیے پکارتی سنائی دیتی ہیں۔“

زیر نے کہا۔ ”مجھے اس لڑکی کی دردناک موت کا سخت افسوس ہے اور سردار نے

ایک دن زبیر نے اسے سمجھایا کہ تم ظلم کے خلاف جگ کرنا چاہتے ہو لیکن تمہارے ہتھیار اپنے دشمن کے ہتھیاروں سے مختلف نہیں۔ انہوں نے تمہاری کشتی جلائی تھی اور تم ان کے جہاز جلاتے ہو دونوں کا اصول ظلم ہے جس طرح کئی بے گناہ ان کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی بے گناہ تمہارے ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ تم خود تسلیم کر چکے ہو کہ تم دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تم دونوں میں کسی کے پاس عدل و انصاف اور امن کے لیے کوئی قانون نہیں۔ اور جب تک تم میں سے ایک کے پاس ایسا قانون نہیں، تمہاری تواریں آپس میں تیرائی رہیں گی ایک تو وار کند ہوگی تو تم دوسری اٹھا لو گے، ایک کمان ٹوٹے گی تو تم دوسری بنا لو گے لیکن ظلم کے مقابلے میں حق و انصاف پر لڑنے والے انسان اپنے حریف کی تواریں کند ہی نہیں کرتے بلکہ اسے ہمیشہ کے لیے چھین لیتے ہیں۔ ایران اور روم پر عربوں کی فتح دراصل نظام باطل پر نظام حق کی فتح تھی۔ ظلم پر انصاف کی فتح تھی، ایران مصر اور شام کے وہ لوگ جو کل تک حق پرستوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، آج افریقہ اور ترکستان سے ظلم کی طاقتوں کو مٹانے کے لیے ہمارے دوش بدوش لڑ رہے ہیں۔“

گنگو نے متاثر ہو کر پوچھا: ”کیا میں بھی آپ لوگوں کا ساتھ دے سکتا ہوں؟“  
 زبیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ”ایک ڈاکو کی حیثیت سے نہیں۔ ہمارا کام بٹلکے ہوئے قافلوں کو لوٹنا نہیں بلکہ انہیں سلامتی کا راستہ دکھانا ہے۔ وہ انسان جو خود ایک غلط سبک پر کاربند ہو، ایک صحیح اصول کا علمبردار نہیں ہو سکتا۔“

گنگو نے نادم سا ہو کر کہا: ”اگر میں آپ کو یقین دلاؤں کہ میں ایک لیڈر کی زندگی سے توبہ کرتا ہوں تو آپ مجھے یقین کر لیں گے؟“  
 ”میں خوشی سے تم پر اعتبار کروں گا۔“  
 ”اور آپ مجھے آزاد بھی کر دیں گے۔“

”ہاں!“  
 ”کیا یقین ہے کہ دیبل کے حاکم نے وہ جہاز لوٹ لیا ہو؟“  
 ”ہاں! میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ خشکی کے ڈاکو سمندر کے لیڈروں سے زیادہ بے رحم ہیں۔“

(۴)

اس گفتگو کے بعد گنگو کے ساتھ زبیر کی دلچسپی بڑھ گئی۔ جسے رام عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ گنگو کی سرگزشت نے زبیر کی طرح اسے بھی متاثر کیا لیکن ایک وفادار سپاہی کی طرح وہ راجہ کو نکتہ چینی سے بلند سمجھتا تھا۔ وہ رعایا کے کسی فرد کا یہ حق تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ وہ کسی ذاتی رنجش کی بنا پر راجہ کے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ وہ راجاؤں کی تقدیر کے مقابلے میں رعیت کی کمتری کا قائل تھا۔ تاہم جب زبیر نے گنگو سے پرامن رہنے کا وعدہ لے کر اس کی زنجیریں کھلوادیں، تو اس نے مزاحمت نہ کی۔

چند دن زبیر کی صحبت میں رہ کر گنگو نے اپنے خیالات میں ایک عجیب تبدیلی محسوس کی۔ زبیر نے چند ملاقاتوں میں روم اور ایران کے خلاف مسلمانوں کی ابتدائی جنگوں کا ذکر کر کے اس پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ دنیا میں صرف اسلام ایک ایسا نظام پیش کرتا ہے جو جبر و استبداد کی حکومتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ گنگو ایک ڈاکو کی زندگی اختیار کرنے کے بعد سماج کے تمام مذہبی عقائد سے کنارہ کش ہو چکا تھا۔ اس کے لیے دنیا ایک وسیع جھیل تھی، جس میں بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو نلکتی ہیں، وہ خود کو ایک چھوٹی مچھلی سمجھتے ہوئے ہر بڑی مچھلی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار تھا۔ مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردی کی پہلی دہریہ تھی کہ وہ روئے زمین کی بڑی مچھلیوں کے خلاف برسرِ پیکار تھے۔

(۵)

اگلے دن یہ جہاز ایک ٹاپو کے کنارے ٹنگرانداز ہوئے۔ زبیر گنگو کو ساتھ لے کر دلیپ سنگھ کے جہاز پر چلا گیا۔ گنگو نے اپنے ساتھیوں کے سامنے سندھی زبان میں ایک مختصر تقریر کی۔ رہائی کا مژدہ سن کر قیدیوں کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے لیکن جب گنگو نے یہ بتایا کہ وہ لوٹ مار سے توبہ کرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کا ساتھ چھوڑ چکا ہے تو بعضوں کی خوشی غم میں تبدیل ہو گئی۔ گنگو نے یکے بعد دیگرے سب سے قسمیں لیں لیکن تین آدمی جن میں سے ایک وہ بھی تھا جس کے آدھے سر اور داہی اور مونچھوں پر دلیپ سنگھ کے ساتھی اپنے استروں کی دھار کی آزمائش کر چکے تھے۔ مذہب سے ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔

گنگو نے ان سے مخاطب ہو کر کہا: "کالا، واسو اور موٹی! تم کچھ عرصہ میرے ساتھ رہو گے۔ اس کے بعد اس نے زبیر سے مخاطب ہو کر کہا۔ "میں ان کے پرامن رہنے کی ضمانت دیتا ہوں۔" زبیر نے دلیپ سنگھ سے چند باتیں کرنے کے بعد طاحوں کو قیدیوں کی زنجیریں کھول دینے کا حکم دیا۔

کالا، واسو، موٹی اور گنگو زبیر کے ساتھ دوسرے جہاز پر چلے آئے، واسو کا عجیب و غریب حلیہ دیکھ کر تمام عرب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ علی نے بے اختیار ایک تہقہ لگایا اور عورتوں تک یہ خبر پہنچانے کے لیے بھاگا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ہاشم کے علاوہ چند اور بچے بھی تھے۔ تمام لوگ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر معصومانہ انداز میں پوچھا۔ "تمہارے چہرے کے بائیں طرف بال نہیں آگتے؟"

تمام عرب ہنس پڑے۔ علی کا تہقہ سب سے بلند تھا۔ گنگو نے ہنستے ہوئے ہاشم کو گرد میں اٹھالیا۔

زبیر نے جواب دیا: "اگر تم توبہ کے لیے یہ شرط پیش کرد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اس لیے توبہ نہیں کروہے کہ تم اپنے افعال پر نادم ہو اور اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہو بلکہ اس لیے کہ تم آزاد ہونا چاہتے ہو۔"

"لیکن میری توبہ سے آپ یہ خیال تو نہیں کریں گے کہ میں بزدل ہوں؟"

"نہیں توبہ کرنا بہت بڑی جرأت کا کام ہے۔"

"تو میں آپ سے ایک ڈاکو کا پیشہ ترک کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔"

"جتنے تم پر یقین ہے اور اگر تم اپنے ساتھیوں کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار

ہو تو میں تم سب کو آزاد کر دوں گا، اور جس جگہ کہو تمہیں اتار دوں گا۔"

گنگو نے جواب دیا: "میرے ساتھیوں نے صرف میری وجہ سے یہ پیشہ اختیار کیا تھا۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو میری رہنمائی کے بغیر ایسی جرأت نہیں کر سکتے اگر آپ انہیں سندھ کے کسی غیر آباد حصے پر اتار دیں تو پھر ماہی گیروں کا پیشہ اختیار کر لیں گے وہ مدت سے میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی پہچانے گا بھی نہیں لیکن ان میں چار آدمی خود مر ہیں۔ ان کے متعلق میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھے خود اپنے اد پر اعتماد نہیں اگر آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو ممکن ہے کہ کسی ظالم سردار کو دیکھ کر میں صبر نہ کر سکوں اور پھر اسی ظلم پر اتراؤں۔ اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں تو ممکن ہے کہ آپ کے ملک میں رہ کر میں بھی آپ جیسا انسان بن جاؤں۔ وہ چار آدمی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اگر میری طرح اس جہاز پر ہوتے، تو مجھے یقین ہے، کہ آپ کی باتیں انہیں بھی متاثر کرتیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے ساتھیوں سے مل لوں؟"

شک ہے کہ وہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے آس پاس شہر کے حاکم نے  
لوٹا ہے۔“

ناہید نے کہا۔ ”میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میرا باپ زندہ ہے۔“  
گنگو نے جواب دیا۔ ”اگر وہ زندہ ہے تو سندھ کے کسی ایسے قید خانے میں ہوگا۔  
جہاں سے لوگ موت سے پہلے باہر نہیں نکلتے لیکن میں اس کے سزا خانے کی ذمہ داری  
لیتا ہوں۔ اگر ان کا پتہ مل گیا تو میں مکران کے حاکم کے پاس اطلاع بھیج  
دوں گا۔“

یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا۔ ”آپ مجھے دیبل کے آس پاس اتار دیں  
اور جے رام اگر میری مدد کرے تو میں بہت جلد ان کا پتہ لگا سکوں گا۔“  
مایا دیوی نے کہا۔ ”میں اپنے بھائی کی طرف سے تمہاری مدد کا وعدہ کرتی ہوں۔  
دیبل کا حاکم ان کا دوست ہے اور وہ ان سے کوئی بات نہیں چھپائے گا۔“  
گنگو نے کہا۔ ”حاکم کسی کے دوست نہیں ہوتے اور دیبل کے حاکم کو تو میں  
اچھی طرح جانتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ زبیر سے مخاطب ہوا۔ ”آپ دیبل کی بندرگاہ پر  
ٹھہرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟“

زبیر نے جواب دیا۔ ”میرا تو ارادہ نہ تھا لیکن جے رام کے مجبور کرنے پر میں ایک  
دو دن ٹھہرنے کا ارادہ کر چکا ہوں۔“

گنگو نے کچھ سوچ کر جواب دیا۔ ”مجھے معلوم نہیں کہ سندھ کے راجہ اور دیبل کے  
حاکم پر جے رام کا کتنا اثر ہے۔ ورنہ میں آپ کو سندھ کے ساحل پر اتارنے کا مشورہ  
نہ دیتا۔“

زبیر نے جواب دیا۔ ”ہمارے ساتھ سندھ والوں کے تعلقات اس قدر بڑے  
نہیں پچھلے دنوں ابوالحسن کے متعلق پوچھنے کے لیے والی مکران وہاں گیا تھا۔“

شام کے وقت خالد نے زبیر سے کہا۔ ”ناہید کا خیال ہے کہ گنگو کو اباجان کے  
جہاز کا ضرور علم ہوگا۔ وہ بذات خود گنگو سے چند سوالات پوچھنے پر اصرار کر رہی  
ہے۔“

زبیر نے جواب دیا۔ ”میرے خیال میں ہمیں گنگو کی باتوں پر اعتبار کرنا چاہیے۔“  
خالد نے کہا۔ ”لیکن ناہید یہ کہتی ہے کہ اگر اسے علم نہ بھی ہوا تو بھی وہ پتہ  
لگانے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ کل انہیں کوئی خواب نظر آیا تھا اور وہ یہ کہتی ہیں  
کہ اباجان زندہ ہیں۔“

”پوچھنے میں کوئی حرج نہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ وہ گنگو پر کوئی شک و شبہ ظاہر نہ  
کریں۔ جاؤ اپنی بہن کو لے آؤ، میں گنگو کو بلاتا ہوں۔“  
دلپ سنگھ نے گنگو کو بلایا اور ناہید کے ساتھ ماما دیوی بھی آگئی۔ ناہید کے چہرے  
پر ایک سیاہ نقاب تھا۔ اس نے ماما دیوی کے کان میں کچھ کہا، اور ماما دیوی کے اذنیات  
میں سر ملانے پر اپنا ہار اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔

مایا دیوی نے ہار گنگو کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ ”آپ نے چند دن قبل ان  
کے باپ کے جہاز کا ذکر کیا تھا۔ اگر آپ ان کے باپ کا پتہ لگا سکیں تو یہ آپ کا  
انعام ہے۔“

گنگو نے رنج و ندامت سے آبدیدہ ہو کر یکے بعد دیگرے خالد اور زبیر کی طرف دیکھا  
اور پھر ناہید سے مخاطب ہو کر کہا۔ ”بیٹی! میں اتنا گرا ہوا نہ تھا!“  
ناہید نے اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر کہا۔ ”آپ کو غلط فہمی ہوئی۔ مجھے آپ  
پر شک نہیں میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہماری مدد کریں۔“

”اس کے لیے مجھے ہار دینے کی ضرورت نہ تھی۔ میں زبیر کے احسان کا بدلہ  
نہیں اتار سکتا۔ اگر کوئی بیٹا اس جہاز کو لوٹتا تو مجھے ضرور معلوم ہو جاتا لیکن مجھے

اس کے ساتھ فرود سے ضرور پیش آیا لیکن اس پر دست درازی نہیں کی۔  
گنگو نے جواب دیا۔ اس کا جہاز خالی ہوگا لیکن آپ کے جہاز پر ہاتھی ہیں اور  
وہ اپنی فوجی طاقت بڑھانے کے لیے ہاتھیوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اس  
کے علاوہ آپ کے ساتھ عورتیں ہیں۔ جن کے لیے اس کے دل میں کوئی  
عزت نہیں ہے۔“

## دبیل

گنگو، کالو، واسو اور موتی کے علاوہ باقی تمام قیدی دبیل سے چند کوس دور ایک  
غیر آباد مقام پر اتار دیے گئے۔ گنگو، ابوالحسن کا سراغ لگانے کا بیڑا اٹھا چکا تھا، اس لیے  
اس نے ایک گجراتی تاجر کے بھیس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ہمراہ دبیل کی بندرگاہ  
پر اترنے کا فیصلہ کیا۔ جے رام اس مہم میں گنگو کی مدد کرنے کا وعدہ کر چکا تھا۔ تاہم اس نے  
زیر کو بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ حکومت سندھ ایسا نہیں کر سکتی اگر ابوالحسن  
کا جہاز دبیل کے آس پاس لوٹا گیا ہے تو دبیل کے حاکم اور راجہ کو یقیناً اس کی  
خبر نہیں ہوگی۔“

زیر نے جواب دیا۔ ”مجھے خود یہ شبہ نہیں۔ لیکن میں ناہید کے شبہات دور کرنا چاہتا  
ہوں۔“

شام سے کچھ دیر پہلے یہ جہاز دبیل کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے، مایا دیوی نے تمام  
عرب عورتوں کو اپنے گھر لے جانے پر اصرار کیا۔ جے رام نے تمام ملاحوں کو دعوت دی۔  
لیکن گنگو نے دلپ سنگھ کے کان میں کچھ کہا، اور اس نے جے رام کو مشورہ دیا۔ ”آپ  
کئی ماہ کے بعد دبیل واپس جا رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی جائے قیام پر کسی اور کا قبضہ

کہ وہ اچھی طرح مسلح ہیں۔ وہ بندرگاہ سے روانہ تو نہیں ہو گئے؟

”نہیں! میں مسافروں کو اپنے پاس ایک دو دن مہمان رکھنا چاہتا ہوں۔ انھوں نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو ان کے شہر میں ٹھہرنے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟“

”اعتراض! نہیں۔ وہ باقی تمام عمر ہمارے مہمان رہیں گے۔ میں ہمارا ج سے ان کے جہاز لٹنے اور انھیں گرفتار کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہوں۔“

اگر اس محل پر بجلی گر پڑتی، تو بھی شاید جے رام اس قدر بدحواس نہ ہوتا وہ ایک لمحہ کے لیے ایک بے جان مجسمہ کی طرح بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ بالآخر اس نے سنبھل کر کہا۔ ”آپ مذاق کرتے ہیں؟“

پر تاپ رائے نے ذرا تلخ لہجے میں جواب دیا۔ ”میں بچوں کے ساتھ مذاق کرنے کا عادی نہیں۔ ہمیں سندھی تاجروں سے ان جہازوں کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی اور ہمارا ج کا حکم یہی ہے کہ ان جہازوں کو چھین لیا جائے ہمارا ج تحائف کا یہ صندوق دیکھنے سے زیادہ اس بات سے خوش ہوں گے کہ آپ مال و متاع سے بھرے ہوئے دو جہاز یہاں لے آئے ہیں۔“

جے رام نے چلا کر کہا۔ ”نہیں! یہ کیسی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے مہمان ہیں۔ وہ میرے دوست اور محسن ہیں۔“

پر تاپ رائے نے ڈانٹ کر کہا۔ ”ہوش سے بات کرو۔ تمہیں معلوم نہیں تم کہاں کھڑے ہو؟“

جے رام نے کہا۔ ”یہ انسانیت کے خلاف ہے تم ایک ایسی قوم کی دشمنی مول لو گے جو سندھ جیسی کئی سلطنتیں پاؤں تلے روند چکی ہے۔ ہمارا ج کو اس قسم کا مشورہ دینے والے نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں جاتا ہوں۔ مہمان کی رکھشا ایک راجپوت

ہو یہ بھی ممکن ہے کہ دیبل کا حاکم انھیں شہر میں جانے کی اجازت دینے میں کوئی غدر پیش کرے۔“

جے رام نے جواب دیا۔ ”اسے کیا غدر ہو سکتا ہے وہ خود آپ کا میزبان بننے پر اصرار کرے گا۔ اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو کاٹھیا واڑ کے پیش قیمت تحائف راجہ کے پاس نہ پہنچ سکتے۔ اب تو راجہ پر بھی آپ کا حق ہے۔“

زیر نے جواب دیا۔ ”آپ شہر کے گورنر سے مل آئیں۔ پھر ہمیں آپ کے ساتھ چلنے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔“

ماں دہلی نے کہا۔ ”بھیا! آپ جائیں۔ اگر آپ کے مکان پر کوئی اور قابض ہوا۔ تو یہ بہت بری بات ہوگی۔ آپ مہمانوں کو ٹھہرانے کا انتظام کر آئیں۔ میں اتنی دیر بہن بہید کے پاس ٹھہروں گی۔“

جے رام نے بندرگاہ سے ایک آدمی بلا کر اسے تحائف کا صندوق اٹھانے کا حکم دیا اور سیدھا دیبل کے گورنر پر تاپ رائے کے محل میں چلا گیا۔ پر تاپ رائے نے کاٹھیا واڑ کے تحائف کے ذکر کے سوا اس کی باقی سرگزشت بے توجہی سے سنی لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ اسے ڈاکوؤں سے بچا کر یہاں پہنچانے والے سرانڈیپ کے جہاز ہیں تو اس نے چونک کر سوال کیا۔ ”کیا یہ جہاز وہی تو نہیں جن پر سرانڈیپ کے راجہ نے عربوں کو ہاتھی بھیجے ہیں؟“

”ہاں! لیکن آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟“

”یہ بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو! اس پر عرب بچے اور عربوں بھی ہیں؟“

”ہاں!“

”یہ جہاز بحری ڈاکوؤں کے دو جہازوں کو ڈبو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔“

میں زبیر سے رخصت ہو کر شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ شہر میں داخل ہوتے ہی انہیں بندرہ میں سوار اور ان کے پیچھے قریباً ڈیڑھ سو سپہیل سپاہی بندرگاہ کا رخ کرتے ہوئے دکھائی دیئے۔ گنگو کا ماتھا ٹھنکا اور وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ سوار اوپر سپہیل گزر گئے تو گنگو نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ ”شہر کا سردار مسلح سپاہی لے کر بندرگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ ان کی رفتار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہمیں واپس چلنا چاہیے۔“

کالونے کہا ”اگر وہ واقعی کسی بری نیت سے جا رہے ہیں تو ہم لوٹ کر کیا کر سکتے ہیں انہیں تو جہازوں کے لنگر اٹھانے اور بادبان کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔“

گنگو نے کہا۔ اگر تم میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی۔ لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ اور واسو، موتی، تم بھی اگر چاہو تو جا سکتے ہو۔“

ان دونوں نے یک زبان ہو کر کہا۔ ”نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔“

کالونادام سا ہو کر بولا۔ ”میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟“

گنگو نے جواب دیا۔ ”یہ ہم وہاں پہنچ کر دیکھیں گے۔“

موتی نے کہا۔ ”معلوم ہوتا ہے کہ جے رام نے اپنے محسنوں کو دھوکا دیا ہے۔“

گنگو نے جواب دیا۔ ”ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کی نیت بری ہوتی تو اپنی بہن کو وہاں

کیوں چھوڑ جاتا۔“

واسو نے کہا۔ ”یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ وہ اپنی بہن کو اس لیے ان کے پاس چھوڑ گیا تھا

کہ وہ اس کے جانے کے بعد بندرگاہ پر ٹھہرنے کا ارادہ تبدیل نہ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ

لڑکی بھی اس سازش میں شریک تھی۔ دیکھنے میں وہ کتنی بھولی بھالی ہے وہ جہاز پر اس عزت

لڑکی کو اپنی بہن کہا کرتی تھی۔“

کا دھرم ہے۔“

”راجہ کے باغی ہو کر تم کہیں نہیں جا سکتے۔“ یہ کہتے ہوئے پرتاپ رائے نے پہرہ داروں کو آواز دی اور ان کی آن میں چار سپاہیوں نے ننگی تلواروں سے اس کے گرد گھیر ڈال لیا۔

جے رام کو اپنی تلوار بے نیام کرنے کا موقع نہ ملا۔ پرتاپ رائے نے کہا۔ ”تمہیں کچھ دیر میری قید میں رہنا پڑے گا۔ بندرگاہ سے واپس آ کر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کل تمہیں مہاراج کے پاس روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر تم اپنے مہمانوں کی جان بچتی کرو، اسکو، تو میں انہیں رہا کر دوں گا لیکن تمہاری خوشی کے لیے میں راجہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا۔“

سپاہیوں نے جے رام کو محل کی ایک کوٹھری میں بند کر دیا۔ جے رام دروازے کو دھکے دینے، دیواروں سے سر چٹخنے اور شور مچانے کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے اپنی بہن کا خیال آیا، اور وہ پھر اٹھ کر دروازے سے عکریں مارنے لگا۔ اس نے تلوار نکالی لیکن مضبوط کواڑ پر چند ضربیں لگانے کے بعد وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس نے ٹوٹے ہوئے پھل کی ٹوک اٹھا کر اپنے سینے میں گھوپنے کا ارادہ کیا لیکن کسی خیال نے اس کا ہاتھ روک لیا وہ اٹھ کر بیتیاری سے کوٹھری میں ٹپٹنے لگا۔ پھر اسے ایک خیال آیا اور اس نے پہرہ داروں کو آوازیں دیں۔ انہیں طرح طرح کے لالچ دیے لیکن کسی نے اس کے حال پر توجہ نہ دی۔ اس نے راجہ کے پاس شکایت کرنے کی دھمکیاں دیں، لیکن جواب میں پہرہ داروں کے تہقہ سنائی دیے۔

(۲)

جے رام کے شہر جانے سے کچھ دیر بعد گنگو اور اس کے تین ساتھی شام کے دھند



لے کر کیوں آیا ہے لیکن مجھے جے رام سے فریب کی توقع نہیں۔ اس کی بہن اس جہاز پر ہے۔“

ایلی نے پھر پوچھا: ”میں مہاراج کے پاس کیا جواب لے جاؤں؟“

زیر نے کہا: ”ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔“

زیر اور دلپ سنگھ کشتی میں سوار ہو کر ساحل پر پہنچے۔ دلپ سنگھ پر تاپ رائے کے سامنے جھک کر آداب بجالایا، لیکن زیر کی گردن میں حم نہ آنے پر پر تاپ رائے نے کہا: ”تو تم عرب کے باشندے ہو۔ تم میں سے کسی کو بڑوں کا ادب کرنا نہیں آتا؟“

دلپ سنگھ نے جواب دیا: ”ان کے مذہب میں انسان کے آگے سب کچھ گناہ پاپ ہے۔“

پر تاپ رائے نے جواب دیا: ”ہمارے پاس رہ کر اسے انسانوں کے سامنے جھکنا بھی آجائے گا۔“

دلپ سنگھ نے پوچھا: ”آپ کا مطلب؟“

پر تاپ رائے نے جواب دیا: ”کچھ نہیں تمہارے جہازوں پر کیا ہے؟“

دلپ سنگھ نے کہا: ”جے رام نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہوگا۔ آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟“

”جے رام نے جو کچھ بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ جہاز یہاں سے نہیں جاسکتے۔“

”جہاز یہاں سے نہیں جاسکتے۔ وہ کیوں؟“

”یہ راجہ کا حکم ہے۔“

گنگو نے کہا: ”اور جے رام خالد کو چھوٹا بھائی کہا کرتا تھا اور جب زیر بیمار تھا۔ وہ دن رات اس کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ جھوٹا۔ مکار، دغا باز، اکاش وہ میرے ہاتھ پڑ جائے لیکن وہ لڑکی۔“

کالو وہ ہمارے ہاتھ سے نہ جائے اسے پکڑ کر ہم بہت سے کام نکال سکتے ہیں۔ چلو جلدی کرو۔ یہ باتوں کا وقت نہیں۔“

گنگو اور اس کے ساتھی پوری رفتار سے بندرگاہ کی طرف بھاگنے لگے۔

(۳)

عرب لاج جہاز پر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے کہ دلپ سنگھ نے اپنے جہاز سے ان کے جہاز پر پہنچ کر انہیں بندرگاہ کی طرف متوجہ کیا۔ زیر اور اس کے ساتھی ساحل پر مسلح سپاہی دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ چار آدمی ایک کشتی میں سوار ہو کر جہاز پر پہنچے اور ان میں سے ایک نے سندھی زبان میں کہا: ”دیل کے حاکم سردار پر تاپ رائے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں وہ ان جہازوں کے افسروں سے ملنا چاہتے ہیں۔“

دلپ سنگھ نے پر تاپ رائے کے پیام رساں سے پوچھا: ”لیکن جے رام کہاں ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”وہ مہاراج پر تاپ رائے سے مل کر آپ لوگوں کی دعوت کا انتظام کرنے کے لیے اپنی قیام گاہ پر چلے گئے ہیں۔ مہاراج خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔“

دلپ سنگھ نے زیر سے عربی میں کہا: ”یہ ضرور کوئی فریب ہے لیکن ہمارے لیے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔“

زیر نے جواب دیا: ”میں خود حیران ہوں کہ دیل کا حکمران اتنے سپاہی ساتھ

دلپ سنگھ نے پھر ایک جھجھری لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ چند بار کلمہ تو حیدر دہرایا۔ اس کی آواز خفیف اور مدہم ہوتی گئی۔ ہونٹ پکپکاتے، بچنے اور ایک دوسرے سے علاوہ ہو گئے۔ بصرہ کے مسافر کی پتھرائی ہوئی آنکھیں کسی ایسی منزل کو دیکھ رہی تھیں جس کے مسافر واپس نہیں آتے۔ دلپ سنگھ دائمی نیند کی گود میں جا چکا تھا۔ زبیر نے ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“ کہا اور دلپ سنگھ کا سر زمین پر رکھ کر حثارت سے پر تاپ رائے کی طرف دیکھنے لگا۔

سپاہی کشتیوں پر سوار ہو کر تیر بڑھاتے ہوئے جہازوں کا رخ کر رہے تھے اور جہازوں سے تیروں کا جواب تیروں میں آ رہا تھا۔ زبیر کے لیے فرار کی تمام راہیں بند تھیں۔ پر تاپ رائے کے اشارے سے آٹھ دن سپاہی اس پر پل پڑے اڈلے سے یوں سے جکڑ کر زمین پر ڈال دیا۔ زبیر حسرت سے اپنے جہازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔

(۴)

جہاز پر ناہید کے علاوہ دوسری عرب عورتیں بھی مردوں کے شانہ بشانہ لڑ رہی تھیں۔ ہاشم دیر تک دوسرے بچوں کے ساتھ ایک کونے میں چھپ کر نہ بیٹھ سکا وہ ادھر آ کر خالد کے قریب کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا: ”ہمیں کتنی بار بحری ڈاکوؤں سے مقابلہ کرنا پڑے گا؟“

خالد نے کمان میں تیر چڑھاتے ہوئے مڑ کر دیکھا۔ ہاشم کے قریب مایا دیوی حیران و ششدر کھڑی تھی۔ اس نے کہا: ”مایا دیوی! تم ہاشم کو نیچے لے جاؤ!“

مایا دیوی ہاشم کو اٹھا رہی تھی کہ ایک سفسانا ہوا تیر آیا اور ہاشم کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ مایا دیوی نے جھگ کر لے ایک کونے میں لٹا دیا اور تیر نکاسنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاشم ایک ہلکی سی پکپکاتہٹ کے بعد ٹھنڈا ہو گیا مایا دیوی سسکیاں لیتی ہوئی

”یہ سندھ کے نادار ملاحوں کی کشتیاں نہیں جن پر آپ دست درازی کر سکیں، یہ عربوں کے جہاز ہیں۔ ان پر اس قوم کی بیٹیاں سوار ہیں جو سرکشوں اور باغیوں کے مقابلے میں آہنی کی طرح اٹھتی ہے اور بادل کی طرح چھا جاتی ہے جو آسمان سے بجلیاں گرتی دیکھ کر نہیں ڈرتے، وہ ان کی تلوار سے پناہ مانگتے ہیں۔“

پر تاپ رائے نے غضب ناک ہو کر تلوار نکال لی۔ دلپ سنگھ اور زبیر نے تلواریں کھینچنے کی کوشش کی لیکن کئی ننگی تلواریں اور چمکتے ہوئے نیزوں نے ان کے ہاتھ روک لیے۔ پر تاپ رائے نے کہا: ”تم سبھی معلوم ہوتے ہو لیکن تمہاری رگوں میں کسی بزدل غدار اور کینے آدی کا خون ہے۔“

دلپ سنگھ نے جواب دیا: ”دنیا میں سب سے بڑی غداری اور کینگی اپنے مہمان کو دھوکا دینا ہے اور مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ تم۔۔۔۔۔“

دلپ سنگھ کا فہرہ پورا نہ ہوا تھا کہ پر تاپ رائے کی تلوار کی نوک اس کے سینے میں اتر گئی اور وہ تورا کر زمین پر گر پڑا۔ زبیر نے جھگ کر لے ہاتھوں کا سہا لادیا۔ اس نے ایک جھجھری لے کر زبیر کی طرف دیکھا اور کہا: ”زبیر! تمہارے ساتھ میرا سفر ختم ہوا۔ میں دل پر ایک بھاری بوجھ لے کر جا رہا ہوں۔ میں جہالت کی گود میں پلا۔ ابوالحسن نے مجھے انسان بنایا اور تم نے میرے دل میں اسلام کے لیے ایک تڑپ پیدا کی لیکن نہ معلوم کیوں میں اب تک اپنے ضمیر کی آواز بلند کرنے سے جھکتا رہا۔ میں لوگوں کی نظروں سے چھپ کر نمازیں پڑھ چکا ہوں۔ روز سے رکھ چکا ہوں لیکن اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے سے جھکتا رہا، اب میں ارادہ کر رہا تھا کہ بصرہ پہنچ کر مسلمان ہونے کا اعلان کروں، لیکن خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ مجھے ناہید کا افسوس ہے۔ خدا سے بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچانے۔۔۔۔۔ میرے دوست! مجھے بھول نہ جانا! میرے لیے دعا کرنا!!“

ابھی، لیکن پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں لے لیں ہو کر رہ گئی۔  
 ”کون ہ گنگو!“ اس نے جانکی دھیمی روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے  
 پوچھا۔

”ہاں! میں ہوں۔ کالو! اٹھالو! اٹھالو! اٹھالو! اگر شور مچائے تو گلا گھونٹ دینا۔“  
 کالو مایا دیوی کو اٹھا کر جہاز کی پچھلی طرف سی کی ایک میز پر سے اتر کر ایک کشتی  
 پر سوار ہو گیا۔

گنگو نے آگے بڑھ کر خالد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: ”اب مقابلہ کرنے  
 سے کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی تعداد ہم سے بہت زیادہ ہے اور عقب سے بھی دو جہاز ہم پر  
 حملہ کرنے آئے ہیں۔ آپ سے ہیں میری کشتی جہاز کے پیچھے کھڑی ہے۔ میں تمہیں اور ناہید  
 کو بچا سکتا ہوں۔“  
 خالد نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ”ہم اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر نہیں  
 جا سکتے۔“

”لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ لوگ تمہاری بہن کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔“  
 ”لیکن میں جہاز کی تمام عورتوں کو اپنی بہنیں سمجھتا ہوں، اب جے رام کی دغا بازی  
 سے مجھے کسی پر اعتماد نہیں رہا۔“  
 ایک تیرناہید کو لگا اور وہ پسلی پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی۔ خالد نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے  
 کی کوشش کی لیکن اس نے کہا: ”میں ٹھیک ہوں۔ خالد! تم میری نگرانی کرو۔“

خالد نے اس کے اصرار کے باوجود اسے اٹھا کر ہاشم کے قریب بٹھا دیا، ہاشم کی  
 لاش دیکھ کر ناہید کو اپنا زخم بھول گیا۔ اس نے ہاشم کو بھنجوڑا، آوازیں دیں اور انتہائی  
 کرب کی حالت میں بولی۔ ”ہاشم تم اوپر کیوں آئے؟“  
 گنگو نے بے خبری کی حالت میں ناہید کی پسلی سے تیر نکال کر پھینک دیا اور دانا

سے کہا: ”اسے اٹھا لو!“  
 داسونا ناہید کو اٹھانے کے لیے جھکا لیکن خالد نے آگے بڑھ کر اسے پیچھے دھکیل  
 دیا اور کہا: ”تم جے رام اور یہ سپاہی مختلف راستوں سے آئے تھے لیکن تم سب کا مقصد  
 ایک ہے۔ جاؤ ہم تمہیں ایک دفعہ معاف کر چکے ہیں۔“  
 گنگو نے کہا: ”بیٹا! اگر باتوں کے لیے وقت ہوتا، تو میں تمہارا شک دور کرنے  
 کی کوشش کرتا لیکن ہم پر دشمن پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور اگر ہم نے چند اور لمحات  
 ضائع کر دیے تو بھاگنے کے تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ انہوں میں تمہیں سوچنے کی  
 مہلت بھی نہیں دے سکتا۔ بیٹی! مجھے معاف کرنا۔“ یہ کہتے ہوئے گنگو نے اچانک ایک  
 چھوٹا سا ڈنڈا خالد کے سر پر دے مارا۔ خالد لڑکھڑایا لیکن گنگو نے اٹھا کر اسے کندھے پر  
 رکھ لیا۔ داسونے ناہید کو اٹھا لیا اور گنگو نے موتی سے کہا: ”تم یہ کانیں اٹھا لو، یہ ہمیں کاہم  
 دیں گی۔“

حملہ آور کندی ڈال کر جہازوں پر سوار ہو رہے تھے اور تیروں کی لڑائی تو آروں کی لڑائی  
 میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس ہنگامے میں کسی کو ناہید، خالد اور مایا دیوی کے اغوا کیے جانے کا  
 پتہ نہ چلا۔ جب تک یہ لوگ کشتی پر سوار ہوئے، چند کشتیاں عقب سے بھی جہازوں  
 کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ گنگو اور اس کے ساتھیوں نے سندھی زبان میں ہاؤ ہو کر کہنے  
 حملہ آوروں کو شک نہ ہونے دیا اور پچھتے پچھتے جہازوں سے ایک طرف نکل  
 گئے۔

گنگو کے کہنے پر مایا دیوی نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ناہید کے زخم پر پیٹی بانڈ دی خالد  
 کو اپنے ساتھ دیکھ کر اب اسے یہ بھی خیال نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ گنگو پانی سے کپڑا  
 بھگو بھگو کر خالد کے ماتھے پر رکھ رہا تھا اور مایا دیوی کو وہ شخص جو چند لمحے پیشتر ایک بدترین  
 دشمن کی صورت میں نمودار ہوا تھا ایک غمگسار نظر آ رہا تھا۔

گنگو نے کہا: بیٹی! کاش میں تمام بچوں اور عورتوں کو اپنے ساتھ لاسکتا لیکن اس کشتی پر صرف اتنی سوار یوں کی جگہ تھی۔ تم تو جوان ہو اور میں تمہیں ایک بے رحم دشمن کے ہاتھوں سے بچانا چاہتا ہوں اور مایا دیوی! تم شاید باقی سب کو سچا سکھو۔ میں تمہاری آزادی کے بدلے باقی لوگوں کو آزاد کرانا چاہتا ہوں۔“

خالد نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں اور حیران ہو کر سب کی طرف دیکھا۔ گذشتہ واقعات یاد آتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دیکھتے نہ سہی ہاتھ رکھتے ہوئے بولا: ہمارا جہاز کہاں ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گنگو! گنگو! ظالم! دعا باز فریبی! تم نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ وہ کیا کہیں گے۔ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟“

گنگو نے ٹھنڈے دل سے جواب دیا: خالدا! یہ میری عمر میں پہلا موقع ہے کہ مجھے کسی کی گالی پر غصہ نہیں آیا۔ تم مجھے جو جی میں آئے کہو لیکن میں نے برا نہیں کیا۔ میں صرف مایا کو لینے آیا تھا لیکن تمہاری بہن کو زخمی دیکھ کر یہ گوارا نہ کر سکا کہ اسے دشمن کے زخم پر چھوڑ دوں۔“

خالد نے حقارت سے مایا دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ”میں اب سمجھا جے رام نے ایک طرف سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی بھیج دیے اور دوسری طرف سے تمہیں مایا دیوی کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈروں کے سردار تم نہ تھے جے رام تھا۔“

”تم درست کہتے ہو لیکن میں تو بے چارہ ہوں اور جے رام نے تو بے نہیں کی۔ ممکن ہے وہ اپنی بہن کی خبر سننے کے بعد توبہ کرے۔“

”تو تم ہمیں اس کے پاس نہیں لے جا رہے ہو۔“

”تم دیکھ سکتے ہو بندرگاہ کس طرف ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟“

”تم ہمیں کہاں لے جاؤ گے؟“

کشتی خطرے کی حد سے دور چکی تھی اور مایا گنگو سے ہم کلام نہ ہونے کا ارادہ کرنے کے باوجود بار بار یہ پوچھ رہی تھی۔ ”اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ یہ کیسے بیہوش ہوا۔؟“

ناہیدہ اتھنی رنج و ملال کی دھج سے کسی سے ہم کلام نہ ہوئی۔ وہ تشویش کی حالت میں اپنے بھائی کی طرف دیکھی اور جب گنگو یہ کہتا: ”بیٹی! تم فخر نہ کرو تھامے بھائی کو ابھی ہوش آجائے گا۔ میں تمہارا دشمن نہیں۔ میں سمندر کے دیوتا کی قسم کھاتا ہوں۔ تو ناہیدہ بچوں کے گھونٹ پی کر رہ جاتی۔“

پھر وہ مایا دیوی سے مخاطب ہوا: ”مایا! تم ایک راجپوت لڑکی ہو۔ راجپوت چھوٹی قسمیں نہیں کھاتے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا تمہیں یہ ٹینک تھا کہ تمہارا بھائی ان لوگوں کو دھوکا دے گا۔“

”نہیں! نہیں!! میرا بھائی ایسا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم کھاتی ہو۔“

”اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو؟“

”تو میں... میں کنوئیں میں چھلانگ لگا دوں گی۔ آگ میں جل جاؤں گی۔ اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھونٹ ڈالوں گی۔ سمجھو ان کے لیے ایسا نہ کہو۔ مایا دیوی کی چمکیوں نے ناہیدہ کو متاثر کیا اور اس نے کہا: ”مایا! تم ان باتوں کی پروا نہ کرو۔ مجھے تم پر یقین ہے اور اگر تمہارے بھائی نے ہمارے ساتھ دھوکا بھی کیا ہو تو اس میں تمہارا کیا قصور؟“

”میں پھر کہتی ہوں میرا بھائی ایسا نہیں۔ اس کی رگوں میں ایک راجپوت کا خون ہے جو اس قدر احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔“

ناہیدہ نے کہا: ”اس وقت ہمارا دشمن وہ ہے جس نے ہمیں زبردستی جہاز پر سے اتارا ہے اور ہمیں کسی نامعلوم جگہ پر لے جا رہا ہے۔“

## قیدی

اگلے دن کوٹھڑی کا دروازہ کھلا، اور پہریار نے جے رام کو ہاتھ باندھ کر پرنام کیا اور کہا: "آپ کو سردار پر تاپ راتے بلاتے ہیں۔"

جے رام پہریار کے طرز عمل میں اس تبدیلی پر حیران تھا وہ چپکے سے اس کے ساتھ ہولیا۔ پر تاپ راتے اپنے دیوان خانے کے برآمدے میں آنجنوں کی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چاندی کے ایک طشت میں سراندیپ کے راجہ کے وہ تحائف پڑے ہوئے تھے، جو گزشتہ شام عربوں کے جہاز سے لوٹے گئے تھے۔

اس نے جے رام کو دیکھتے ہی جواہرات کے انبار کی طرف اشارہ کیا اور کہا: "جے رام! مہاراج سراندیپ کے تحائف دیکھ کر کاٹھیا وار کے راجہ کے تحائف کی نسبت زیادہ خوش ہوں گے۔ ان میں ایک ایک ہیرا تمہارے صندوق کے سارے مال سے زیادہ قیمتی ہے۔"

جے رام نے اس پر قہر آلود نگاہ ڈالی اور اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔

پر تاپ راتے نے کہا: "لیکن تمہارا چہرہ زرد اور تمہاری آنکھیں سرخ ہیں۔"

اور "کسی ایسی جگہ جہاں راجہ کے سپاہی نہ پہنچ سکیں۔" خالد نے کہا: "اگر تمہاری نیت بری نہیں تو ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس چھوڑا جاؤ۔"

گنگو نے کہا: "تمہارے ساتھی تھوڑی دیر میں دیل کے قیدخانے میں ہوں گے تم قید ہونے کی بجائے قید سے باہر کران کی زیادہ مدد کر سکتے ہو۔"

خالد نے قدرے پرامید ہو کر پوچھا: "تم سچ پچ ان کی مدد کرنا چاہتے ہو؟" گنگو نے جواب دیا: "بیٹا! مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہ تھی اگر میں تمہارا دشمن ہوتا تو یقیناً اس قدر بھنڈے دل سے یہ گالیاں نہ سنتا۔" اگلے دن یہ کشتی دریائے سندھ کے دہانے پر پہنچ گئی۔ گنگو کو اپنے ساتھی مھلیاں پکڑتے ہوئے مل گئے۔

معلوم ہوتا ہے تم رات بھر نہیں سوئے۔ کوٹھڑی میں بہت گرمی ہوگی۔ بندرگاہ سے  
دالیں لے کر مجھے تمہارا خیال نہ آیا۔ ورنہ تمہیں اتنی دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں  
نے مہاراج کی خدمت میں ایچی بھیج دیا ہے۔ چند دنوں تک قیدیوں کے متعلق ان  
کا حکم آجائے گا۔“

جے رام نے کہا: ”تو آپ نے انہیں قید کر لیا؟“

”ہاں! میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا کہ یہ راجہ کا حکم ہے۔“

”آپ نے انہیں لڑکر قید کیا یا میزبان بن کر؟“

پرتاپ رائے نے جواب دیا: ”تم ابھی بچے ہو۔ لڑائی میں سب کچھ جارتا ہے۔“

”میری بہن کہاں ہے؟“

”کون؟“

”میری بہن“

”کہاں تھی؟“

”آپ مجھے بنانے کی کوشش نہ کریں۔ ایک راجپوت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا  
اس قدر آسان نہیں جس قدر آپ سمجھتے ہیں۔ میں پہلے آپ کے راجہ کا ملازم تھا  
اور اب میں کاٹھیاوار کے راجہ کے سفیر کی حیثیت میں یہاں آیا ہوں۔ اگر آپ نے  
میری بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو یاد رکھیے میں کاٹھیاوار سے لے کر  
راجپوتانہ تک آگ کی دیوار کھڑی کر دوں گا اور مہاراج اپنے ہزاروں سپاہیوں کی  
جانیں ضائع کرنے کے بجائے دیبل کے ایک مغرور حاکم کو ہمارے حوالے کر دینا  
زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ رہے عرب وہ مہمان تھے۔ مجھے انہوں سے ہے کہ وہ  
میری وجہ سے اس مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ممکن ہے کہ ان کے متعلق میری پکا  
ہندوستان کے کسی گوشے میں نہ سنی جائے لیکن ان کے بازو بہت لمبے ہیں وہ

جب چاہیں گے آپ کا گلا دلپوش لیں گے۔“  
پرتاپ رائے کو معلوم تھا کہ بعض اوقات راجہ کے غلط احکام بجالانے کا  
خیمیاڑہ اہلکاروں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حاکم خطرے کے وقت اپنا قصور اہل کاروں  
کے سر تھوپ دیتے ہیں۔ عربوں کے متعلق وہ اپنے راجہ کی طرح مطمئن تھا لیکن  
وہ کاٹھیاوار کے سفیر کی بہن کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ تھا۔ اس نے کہا: ”جے رام  
مجھے تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔“  
”آپ جھوٹ کتے ہیں۔ میں اسے جہاز پر عرب عورتوں کے پاس چھوڑ  
آیا تھا۔“

”عورتیں جو جہاز پر تھیں وہ سب ہماری قید میں ہیں۔ اگر تمہاری بہن ان میں  
ہے تو میں ابھی تمہارے ساتھ چل کر اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چلو!۔“  
بہن کو تلاش کرنے کی خواہش جے رام کے تمام ارادوں پر غالب آگئی،  
اور وہ پرتاپ رائے کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے پوچھا: ”عرب ملائیں  
کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا؟“

پرتاپ رائے نے جواب دیا: ”وہ سب آخری وقت تک لڑتے رہے عورتوں  
اور بچوں کے علاوہ ہم صرف پانچ آدمیوں کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔  
دوسرے جہاز پر سرانڈیپ کے ملائوں نے معمولی مزاحمت کی لیکن جلد ہی ہتھیار ڈال  
دیے۔“

تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بیک وقت سرانڈیپ اور عرب کیخلاف لڑائی  
جنگ کر دیا ہے۔“

”میں نے صرف راجہ کے احکام کی تعمیل کی ہے اور جب تک میں اس عہدے  
پر ہوں، میں ایسے احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ میرے خط کے جواب میں راجہ نے اگر

تم نے اپنی بہن کو ہماز پر چھوڑا تھا۔ تمہاری تدبیر کامیاب تھی۔ تم نے اپنے اس حلیف کو ہمارا میزبان بنا کر بھیجا اور مجھے جہاز سے بلوایا اور خود پیچھے سے جہاز پر بیخ کر بنہ معلوم کس بہانے سے ناہید کو کہیں لے گئے لیکن اگر صلح اور جنگ کے لیے تم لوگوں کے اصول یہی ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارے راجہ کے دن گئے جا چکے ہیں۔

پرتاپ رائے نے اچانک سپاہی کے ہاتھ سے کوڑا اچھین کر زبیر کے منہ پر دے مارا اور دوسری ضرب کے لیے تیار تھا کہ جے رام نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پرتاپ رائے نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا: ”تم راجہ کی توہین و بزدلانہ شہرت کر سکتے ہو، میں نہیں کر سکتا۔“

جے رام نے کہا: ”میں تم سے آخری بار پوچھتا ہوں کہ میری بہن اور اس عرب لڑکی کو تم نے کہاں چھپایا ہے؟“

اس سوال نے پرتاپ رائے کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا: ”کیا یہ ممکن نہیں کہ ہمارے حملے کے وقت اسے انتقامی جذبے کے ماتحت جہاز سے نیچے پھینک دیا گیا ہو؟“

جے رام نے جواب دیا: ”یہ لوگ دشمنی میں شرافت کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے میری بہن کے ساتھ عرب لڑکی کا غائب ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سازش کی تہ میں کسی تمہارے جیسے کینے آدمی کا دامع کام کر رہا ہے۔“

زبیر نے پھر جے رام سے مخاطب ہو کر کہا: ”تم ان باتوں سے مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ ناہید، خالد اور تمہاری بہن بیک وقت جہاز سے غائب ہوئے ہیں اور وہ لہجہ تمہاری قید میں ہیں۔ مجھے تم سے کسی نیکی کی توقع نہیں لیکن ہم اتنا ضرور چاہتے ہیں کہ ہمیں سندھ کے راجہ کے سامنے پیش کیا جائے اور جب تک وہ ہمارا فیصلہ نہیں کرتا، ناہید اور خالد کو ہمارے ساتھ رکھا جائے۔“

تمہیں بلا بھیجا اور تم نے ان سے قیدیوں کو رہا کرنے کی اجازت حاصل کر لی، تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں خواہ مخواہ کی ذمہ داری سے بچ جاؤں گا۔“

حل سے نکل کر چند قدم کے فاصلے پر جے رام اور پرتاپ رائے قید خانے کی چار دیواری میں داخل ہوئے۔ پہرہ داروں نے پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر غروں کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ عورتوں نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے۔ عرب ملاحوں نے جے رام کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیے۔ زبیر ایک کونے میں دیوار کے سہارے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نفرت اور حسرت سے جے رام کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کی طرح منہ پھیر لیا۔

جے رام نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور کہا: ”میری بہن یہاں نہیں، وہ کہاں ہے؟“

پرتاپ رائے نے ایک پہرہ دار کو آواز دے کر اندر بلایا اور اس سے پوچھا: ”کیا تمام عورتیں اسی کمرے میں ہیں یا سرائیپ کے ملاحوں کے کمرے میں بھی کوئی ہے؟“

”نہیں مہاراج! تمام عورتیں یہیں ہیں۔“

جے رام نے جواس ساہوکر زبیر کی طرف دیکھا اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا: ”زبیر! میری طرف اس طرح نہ دیکھو! میں بے قصور ہوں۔ تمہیں معلوم ہے۔ میری بہن کہاں ہے؟“

زبیر کے منہ سے اچانک ایک بھوکے شیر کی گرج سے ملتی جلتی آواز نکلی۔ تم میری توقع سے کہیں زیادہ ذلیل ثابت ہوئے ہو۔ تم جھوٹ سے حقیقت پر پڑنے نہیں ڈال سکتے لیکن یاد رکھو، اگر ناہید کا بال بھی بیکا ہوا، تو خدا کی زمین پر تمہیں کوئی ایسا خطہ نہیں ملے گا جو ہمارے انتقام سے پناہ دے سکے۔ ناہید کو اڑانے کے لیے

اور پرتاپ رائے کا اشارہ پا کر جلاؤ زبیر اور علی پر کوڑے برسائے گئے۔ زبیر ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا لیکن علی کی قوت برداشت جواب دے علی تھی اور کوڑے کی ہر ضرب کے ساتھ اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔

باہر کے دروازے میں پاؤں رکھتے ہی علی کی چیخ پکارنے جے رام کو متوجہ کیا اور اس نے جھاک کر دونوں جلاؤں کو یکے بعد دیگرے پیچھے دھکیل دیا اور پرتاپ رائے کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ”یہ ظلم ہے۔ یہ پاپ ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے ان کا فیصلہ راجہ پر چھوڑ دیا ہے۔“

پرتاپ رائے نے علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ ”یہ لڑکا تپا نہیں بنا نے شہر سے تلاش کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمھاری بہن کے ساتھ ہی جہاز پر سے اڑاؤ پیش ہوا تھا، اور اس کے باقی ساتھی شہر کے آس پاس کہیں چھپے ہوئے ہیں۔“

جے رام نے آگے بڑھ کر علی سے پوچھا۔ ”تم کہاں تھے؟ میری بہن کہاں ہے؟“ علی نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر گردن جھکالی۔

جے رام نے کہا۔ ”اگر تمہیں مایا دیوی کے متعلق کچھ معلوم ہے تو بتا دو۔ میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔“

علی نے دوبارہ گردن اٹھائی اور چلا چلا کر کنا شروع کیا۔ ”مجھے معلوم نہیں، میں سچ کہتا ہوں۔ مجھے ان کے متعلق معلوم نہیں۔ میں نے جہاز پر سے کودنے سے پہلے انہیں تلاش کیا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیسے غائب ہوئے۔“

جے رام نے پوچھا۔ ”تم شہر میں کیسے پہنچے؟“

میں جہاز سے کود کر سمندر کے کنارے ایک کشتی میں چھپ گیا تھا۔ آج میں شہر آیا اور سپاہی بھگے پڑ کر یہاں لے آئے۔ تم سب ظالم ہو۔ میں نے تمھارا کوئی قصور

پرتاپ رائے نے چونک کر کہا۔ ”میں اب سمجھا جے رام اگر ان لڑکیوں کے ساتھ جہاز پر سے کوئی آدمی بھی غائب ہوا ہے تو یہ معاملہ صاف ہے، کل رات بندرگاہ سے ایک سرکاری کشتی بھی غائب ہو گئی ہے لیکن وہ زیادہ دور نہیں جاسکتے۔ تم میرے ساتھ آؤ۔“

پرتاپ رائے اور جے رام قید خانے سے باہر نکل کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور انہیں سرپٹ دوڑاتے ہوئے بندرگاہ پر پہنچے۔ بندرگاہ کے پیر دیاروں نے شام کے وقت کشتی غائب ہوجانے کے متعلق پرتاپ رائے کے بیان کی تصدیق کی، اور مایا کے متعلق جے رام کی تشویش بڑھنے لگی۔ پرتاپ رائے نے چند کشتیاں اور جہاز شمال اور مغرب کے ساحل کے ساتھ ساتھ دیکھ بھال کے لیے روانہ کر دیے اور جے رام کو تسلی دی کہ وہ زیادہ دور نہیں جاسکتے۔ جے رام پرتاپ رائے کے ساتھ فالس شہر چلا آیا۔

سہ پہر تک اپنے مکان میں مایا کے متعلق کوئی خبر نہ پا کر اس نے بندرگاہ پر جانے کا ارادہ کیا لیکن پرتاپ رائے کا نپاہی آیا اور اسے اپنے ساتھ اس کے محل کی طرف لے گیا۔

(۲)

پرتاپ رائے کے محل کے پائین باغ میں زبیر اور علی ناریل کے دو درختوں کے ساتھ جکڑے ہوئے تھے۔ پرتاپ رائے، اس کے چند سپاہی اور دو جلاؤ ہاتھ میں کوڑے لیے ان کے پاس کھڑے تھے۔ علی اور زبیر کی جھکی ہوئی گردنیں اور عریاں سینوں پر ضربوں کے نشانات یہ ظاہر کر رہے تھے کہ انہیں ناقابل برداشت جسمانی اذیت پہنچانی جا چکی ہے۔ ایک سپاہی نے جے رام کی آمد کی اطلاع دی،



دے گئی۔

پرتاپ رائے نے ایک سپاہی کو گرم لوبلا لانے کا حکم دیا جسے رام پھر چلایا۔ پرتاپ تم ظالم ہو، کیونے ہو۔ مجھے جو سزا چاہو دے لو لیکن ان پر رحم کرو۔“

پرتاپ رائے نے گرج کر کہا۔ ”مجھے تمھاری بدزبانی کی پروا نہیں۔ میں تمھارا فیصلہ مہاراج پر چھوڑوں گا لیکن اس وقت ان کی جان میرے قبضے میں ہے۔ میں ان کی آنکھیں نکھوادوں گا۔ ان کی بوٹیاں نوچ ڈالوں گا۔ یہ ناممکن ہے کہ یہ زندہ بھی رہیں اور تم مہاراج کے پاس جا کر اپنی بہن کے اعزاء کی جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈالو۔ اگر تمھاری بہن جہاز پر سے قاتل ہوئی ہے تو میں ضرور اس کا پتہ لگاؤں گا۔ اس کے لیے اگر مجھے ان تمام بچوں اور عورتوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا پڑا تو بھی ریش نہیں کروں گا۔“

سپاہی نے لوسے کی سلاخ پرتاپ رائے کے ہاتھ میں دے دی اور وہ زبیر کی طرف بڑھا۔ جسے رام نے بلند آواز میں کہا۔ ”نہیں نہیں! ٹھہرو! میری بہن جہاز پر نہ تھی۔ میں اکیلا آیا تھا۔ میں فقط ان کی جان بچانا چاہتا تھا۔“

پرتاپ رائے نے جواب دیا لیکن مجھے کیونکر یقین آئے کہ تم راجہ کے سامنے ایسی کہانیاں بیان کر کے اسے میرے خلاف نہیں بھڑکاو گے۔“

”پرتاپ میں وعدہ کرتا ہوں ایک راجپوت کا وعدہ! مجھ پر اعتبار کرو۔“

”تمہیں یہ گواہی بھی دینی پڑے گی کہ جہاز پر سے کوئی بھی لڑکی غائب نہیں ہوئی۔“

”اگر تم انہیں چھوڑ دو تو میں یہ وعدہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔“

”انہیں چھوڑنا نہ چھوڑنا راجہ کا کام ہے۔ میں صرف یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ آئندہ کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ تمہیں راجہ کے سامنے یہ بھی ماننا پڑے گا

نہیں کیا۔“

بے رام نے زبیر کی طرف دیکھا لیکن حیرانی، غصہ، ندامت اور افسوس کے جذبات کے ہیجان میں وہ اس سے مخاطب ہونے کے لیے موزوں الفاظ تلاش نہ کر سکا۔ اس کی آنکھیں ایک بار اٹھیں اور جھک گئیں۔ ہونٹ پکپکاتے اور ایک دوسرے سے پیوست ہو گئے۔ اس نے پرتاپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ”آپ انہیں چھوڑ دیں۔ مجھے ان پر کوئی شبہ نہیں۔“

پرتاپ رائے نے کہا۔ ”میں انہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اگر تمھاری بہن جہاز پر تھی تو ان کو یقیناً یہ علم ہو گا کہ وہ کہاں ہے۔ تم شاید اب تک مجھے مجرم خیال کرتے ہو اور میں ان لوگوں کی زبان سے تمہیں یقین دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ تمھاری بہن کو ان لوگوں نے چھپا رکھا ہے اور اگر وہ زندہ نہیں تو انھوں نے تمھارا پر حملہ ہونے سے پہلے اسے سمندر میں پھینک دیا ہو گا۔ اب یا انہیں اپنے جرم کا اقبال کرنا پڑے گا اور یا تم کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ تمھاری بہن جہاز پر تھی ہی نہیں اور تم نے مجھے مرعوب کرنے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا تھا۔“

پرتاپ رائے نے پھر جلاؤں کو اشارہ کیا اور وہ زبیر اور علی پر پھیر کوڑے برسائے لگے، جسے رام چلایا۔ ”ٹھہرو! ٹھہرو! یہ بے تصور ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ انہیں چھوڑ دو۔“

لیکن اس کی چیخ پکار بے اثر ثابت ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جلاؤ کے منہ پر گھونسا رسید کیا، لیکن پرتاپ رائے کے اشارے سے چند سپاہیوں نے اسے پکڑ کر پیچھے ہٹا دیا وہ سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا۔ علی چیخیں مارنے کی بجائے نیم بیہوشی کی حالت میں آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ زبیر ہر کوڑے کی ضرب کے بعد جسے رام کی طرف دیکھتا اور پھر آنکھیں بند کر لیتا۔ بالآخر علی کے کہنے کی آواز بند ہو گئی اور گردن اٹھانے اور آنکھیں کھولنے کے لیے زبیر کی طاقت بھی جواب

احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ دیبل کے سردار نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ تمہارے جہازوں پر حملہ کرنے سے پہلے مجھے ایک کوشٹری میں بند کر دیا۔ تم مجھ سے بظن ہو۔ مجھے دغا باز سمجھتے ہو لیکن میں بے قصور ہوں۔ اگر جھگوان نے موقع دیا تو میں یہ ثابت کر سکوں گا۔“

زیر نے کہا: ”اگر تم اس سازش میں شریک نہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ ناہید اور خالد کہاں ہیں؟“

جے رام نے جواب دیا۔ ”اگر تم مایا کے متعلق کچھ نہیں جانتے تو میں خالد اور ناہید کے متعلق کیا بتا سکتا ہوں؟ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ساری رات کوشٹری میں بند رہا۔ تم جہاز پر تھے۔ بندرگاہ سے ایک کشتی بھی اس رات غائب ہو چکی ہے۔ اگر تم نے لڑائی سے پہلے انہیں کہیں بھیج دیا ہے، تو جھگوان کے لیے مجھ سے نہ چھپاؤ۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے انہیں پرتاپ رائے کے ظالم ہاتھوں سے بچانے کی نیت سے کہیں بھیجا ہو گا۔ مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مایا زندہ ہے اور کسی محفوظ جگہ پر ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم پر کوئی آپریشن نہ آنے دوں گا۔ میں پرتاپ رائے کو یستین دلا چکا ہوں کہ میری بہن میرے ساتھ نہ تھی۔ دوزخ آج تمہیں زندہ نہ چھوڑتا۔“

زیر نے جواب دیا۔ ”کاش! میں تم پر اعتبار کر سکتا۔ تم دونوں ناہید کو چھپا کر مایا کی ذمہ داری ہمارے سراسر لیے تھوپ رہے ہو کہ ہم راہ سے ناہید اور خالد کے متعلق سوال نہ کر سکیں۔“

جے رام نے کہا۔ ”زیر مجھ پر اعتبار کرو۔ مجھے تم سے جھوٹ بولنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو مایا اور ناہید کے متعلق کوئی علم نہیں تو یہ پرتاپ رائے کی شرارت ہے۔ آج وہ میرے سامنے تم دونوں کو اس لیے نذرانے دے رہا تھا کہ میں آئندہ مایا اور ناہید کا نام نہ لوں۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں اور تم نہیں جانتے

کہ تم نے ان لوگوں کو چھڑانے کی نیت سے مجھ پر دباؤ ڈالا اور اپنی بہن کو ایک بہنا بنا یا تھا۔“

جے رام نے شکست خوردہ سا ہو کر جواب دیا۔ ”میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔“

پرتاپ رائے نے لوہے کی سلاح پھینکتے ہوئے کہا۔ ”تم نے مجھے خواہ مخواہ پریشان کیا۔“

(۳)

زیر نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولیں وہ علی کے قریب قید خانے میں پڑا ہوا تھا۔ جے رام ٹھنڈے پانی کی بالٹی سے رومال جھگو جھگو کر اس کے زخموں پر ٹکڑا کر رہا تھا۔ ایک عورت علی کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیر ہوش میں آتے ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جے رام نے پانی کا کوزا بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ زیر کے دل میں ایک لمحہ کے لیے پھر ایک بار غصہ اور حقارت کے جذبات بیدار ہوئے لیکن جے رام کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پی لیے۔ جے رام نے فقط اتنا کہا۔ ”زیر! مجھے افسوس ہے۔“ اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ زیر نے اپنے چہرے پر ایک مخوم مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ”جے رام! تم میرے لیے ایک مہم جوئی ہو۔ تم نے دیبل کے حاکم سے ساز باز کر کے ہمیں اس حالت تک پہنچایا۔ اس کے بعد تم میرے لیے جلا دلوں سے نبرد آزما ہوئے۔ اب تم آنسو بھی بہا رہے ہو آخر ان سب باتوں کا مطلب کیا ہے؟“

جے رام کے ہونٹوں سے درد کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی۔ ”زیر! مجھ پر اعتبار کرو۔ میں تمہارا دوست ہوں۔ تم نے میری جان بچائی تھی اور ایک راہپوت

کہ ایک راجپوت بھائی کے لیے اپنی بہن کے متعلق اس قسم کا وعدہ کرنا کس قدر صبر آزما ہے۔“

زبیر نے جواب دیا: ”تمہاری مہربانی کا شکریہ۔ اس وقت ہم پر تمہاری تلواروں کا پہرہ ہے۔ ہمارے لیے تمہارے جھوٹ اور سچ سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں سچ بولنے کا انعام دے سکتا ہوں۔ نہ جھوٹ بولنے کی سزا۔ صرف یہ جانتا ہوں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہوئے اور جب تک میں ناہید کو نہیں دیکھتا، مجھے نہ تم پر اعتبار آ سکتا ہے اور نہ دسیل کے حاکم پر۔ اگر مستقبل کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم اس معاملے میں بے قصور تھے تو میں تم سے اس بدگمانی کے لیے معذرت کروں گا۔ اگر دسیل کا حاکم قصور والے ہے تو تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آواز راجہ کے کانوں تک پہنچ جائے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد ناہید اور تمہاری بہن کے متعلق کوئی علم نہیں۔ دوسرے جہاز سے سرانڈیپ کے ملاحوں نے ہمارے جہاز کے چند آدمیوں کو ایک کشتی پر سوار ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کشتی جنوب کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ اگر انہیں اس کشتی پر اغوا کیا گیا ہے تو معاملہ صاف ہے۔ کشتی ہمارے جہازوں سے نہیں بلکہ بندرگاہ سے غائب ہوئی ہے اور اس بات کا علم بندرگاہ والوں کو ہونا چاہیے کہ وہاں سے کشتی کون لایا۔“

جے رام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا: ”پر تاپ! کمینہ! مکار! ظالم بزدل! — زبیر بھگوان کے لیے میری خطا معاف کر دو۔ میں نے تم پر شک کیا۔ میں نادم ہوں۔“

زبیر کو ان الفاظ سے زیادہ جے رام کی پرفیم آنکھوں نے متاثر کیا اور اس نے جے رام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا: ”جے رام! تم جاؤ۔ انہیں تلاش کرو۔ پر تاپ! ظالم بھی ہے اور مکار بھی۔ اسے اپنے دل کا حال نہ بتانا۔ ورنہ

تم اپنی بہن کو تلاش نہ کر سکو گے اور نہ راجہ ہی کے کانوں تک یہ خبر پہنچ سکے گی۔“  
جے رام اٹھ کر تیرخانے کی کوچٹری سے باہر نکل آیا۔ پھر میاؤں نے دروازہ بند کر دیا۔ چند قدم دوڑ جانے کے بعد جے رام نے واپس آ کر ایک پہرہ دار کو سرانڈیپ کے ملاحوں کی کوچٹری کا دروازہ کھولنے کے لیے حکم دیا۔

ان لوگوں سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کے دل پر ایک بھاری بوجھ تھا۔ سرانڈیپ کے ملاح زبیر کے بیان کی حرف بہ حرف تصدیق کر چکے تھے اور اسے انہوں نے شکا کر کے زبیر کی باتوں پر شک کیوں گزرا:



اور وہ خالد کے ساتھ کسی ایسے جزیرے میں پہنچ جاتے جہاں صاف اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہوں۔ آبشاریں محبت کے گیت گاتی ہوں۔ سدا بہار درخت لہلاتے ہوں۔ گہری جھیل میں کنول کھلتے ہوں۔ دیبل کی بندرگاہ کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس کے سپنوں کی رنگین دنیا درمہم برہم ہونی لیکن قدرت نے جب انہیں جہاز کی بجائے ایک کشتی پر سوار کر دیا تو مایا دیوی پھر سپنوں کی ایک نئی دنیا آباد کرنے لگی لیکن دیبل کے حادثے نے ایک جیتے جاگتے نوجوان کو ایک پتھر کا مجسمہ بنا دیا تھا۔ محبت اور وفا کی دیوی کی ملتی اور متنی لگا ہوں کے جواب میں خالد کی آنکھوں میں نفرت اور حقارت کے سوا کچھ نہ تھا۔

ان لوگوں میں صرف ناہید ایسی تھی جسے یہ یقین تھا کہ دیبل کے حادثے سے مایا دیوی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک عورت کی ذکاوت حس سے مایا کی ذہنی کشمکش کا اندازہ کر چکی تھی، اسے جب بھی موقع ملتا، وہ خالد کے سامنے مایا کی پاکیزگی، اس کی معصومیت اور اس کی جیا کا ذکر چھیڑ دیتی۔ خالد گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کرتا تو وہ کہتی: "خالد! تمہارا دل بہت صحت ہے۔ تم دیکھتے نہیں اس کا سرخ و سفید چہرہ دوپہر کے بھول کی طرح مرجھا گیا ہے۔ اس کا بھائی براہی لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ معصوم ہے۔ وہ تمہیں اپنی آخری پناہ خیال کرتی ہے۔ تم اسے تسلی دے سکتے ہو۔ وہ اب یہاں تک کہ چکی ہے کہ اگر اس کا بھائی واقعی اس سازش میں شریک تھا تو وہ اس کے پاس جانے سے مرنا بہتر سمجھتی ہے۔"

اور وہ جواب دیتا: "میں دوپہر کے وقت چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی کے متعلق اپنی رائے بدلنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔"

(۲)

چند دن اس قلعے میں رہنے کے بعد ناہید چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی لیکن غیر کا زخم ابھی تک منڈل نہیں ہوا تھا۔ خالد کبھی کبھی سواروں کی کسی ٹولی کے ساتھ گشت کے لیے چلا جاتا۔

ایک شام مختلف اطراف سے سپاہیوں کی تمام ٹولیاں واپس آگئیں لیکن خالد اور اس کے چار ساتھی واپس نہ آئے۔ ناہید نماز مغرب کے بعد اپنے بھائی کی خیریت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ گنگو اپنے چند ساتھیوں کو خالد کی تلاش میں روانہ کر کے ایک اونچے درخت پر چڑھ کر اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ مایا قلعے سے باہر نکل کر گھنے درختوں میں سے ادھر ادھر جھانک رہی تھی۔ اچانک اسے دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سانی دی اس کا دل دھڑکنے لگا اور وہ تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا دامن ایک جھاڑی کے کانٹوں سے الجھ گیا۔ وہ کانٹوں کو انگ کر رہی تھی کہ جھاڑیوں کے عقب سے خالد اور دوسرے سوار نمودار ہوئے۔ خالد نے گھوڑا روکتے ہوئے پوچھا: "میری بہن کیسی ہے؟"

کانٹوں کے راستے یہ الفاظ مایا کے دل میں اتر گئے۔ وہ خالد کی طرف دیکھنے لگی۔ خاردار جھاڑی کی چند شاخیں جو اس نے بڑی مشکل سے اپنے دامن سے جدا کی تھیں۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئیں۔

خالد نے پھر کہا: "بتاؤ میری بہن ٹھیک ہے نا؟"

مایا نے چونک کر جواب دیا: "وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ آپ نے بہت دیر لگائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟"

"میں — کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر مایا پھر اپنے دامن کو کانٹوں سے چھلانے لگی،

لیکن اس کی نگاہیں خالد پر گڑی ہوئی تھیں۔ خالد گھوڑے سے اترا اور اس کے ساتھی

دردیدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور مسکراتے ہوئے آگے نکل گئے خالد شاخوں کو ایک ایک کر کے اس کے دامن سے الگ کرنے لگا۔ مایا کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو اڑنے لگے۔ اس نے اپنا کانپتا ہاتھ خالد کے ہاتھ پر رکھ دیا۔

خالد نے ایک شاخ اس کے دامن سے الگ کرتے ہوئے کہا: "اسے پکڑو۔" اس نے جلدی سے شاخ کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن ایک تیز کانٹا اس کی انگلی میں پیوست ہو گیا اور شاخ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر اس کے دامن میں الجھ گئی۔ مایا کانٹے کی تکلیف کے باوجود مسکرائی۔ تشکر کے آنسوؤں میں صیگی ہوئی مسکراہٹ نے اس کا چہرہ شبنم آلود مہول سے کہیں زیادہ دلفریب بنا دیا۔ خالد نے اس کی طرف دیکھا اور آنکھیں جھکاتے ہوئے کہا: "لاؤ میں نکال دوں۔"

مایا نے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ خالد کانٹا نکال کر پھر چھاری کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے پوچھا: "تم یہاں کیوں آئیں؟"

مایا نے جواب دیا: "قلعے میں گرمی تھی اور میں ذرا ہوا خوری کے لیے نکل آئی تھی۔" لیکن اس کا دل کہہ رہا تھا: "کیا سچ تم میرے یہاں آنے کی وجہ نہیں سمجھ سکتے؟ کاش میں تمام عمر کانٹوں میں الجھی رہوں اور تم نکالتے رہو۔"

خالد نے جواب دیا: "لیکن اس وقت درختوں کے نیچے تو زیادہ جلس ہے؟" مایا نے پریشان سی ہو کر خالد کی طرف دیکھا۔ لیکن کچھ سوچنے کے بعد جواب

دیا: "میں دریا کی طرف جا رہی تھی۔"

"دریا دوسری طرف ہے۔"

"میں بھی اسی طرف جا رہی تھی لیکن۔"

"لیکن کیا؟"

"گھوڑوں کی ٹاپ سن کر اس طرف لوٹ آئی۔ آج آپ نے بہت دیر کی میں بہت پریشان تھی۔"

میں تمہاری پریشانی کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ اگر میں زبیر اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح قید میں ہوتا تو تمہیں بہت اطمینان ہوتا لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اب بھی قید میں ہوں۔ میں تمہارے بھائی کی طرح اپنی بہن کو چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔"

مایا کے دل پر ایک چرکا لگا۔ وہ دیر تک بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ اس نے خلاف معمول خالد کی طرف مٹکنگی بانڈھ کر دیکھا اور اس کی جھکتی ہوئی پتلیوں پر پھر ایک بار پانی کے دھندلے نقاب چھا گئے۔ یہ نقاب ابھر کر پھٹکے ہوئے آنسوؤں میں تبدیل ہو گئے۔ پتلیں انہیں زیادہ سہارا نہ دے سکیں۔ دو چمکتے ہوئے موتی رخساروں پر ہلکی ہلکی لکیریں چھوڑتے ہوئے ہونٹوں پر آڑ کے۔ مایا نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا۔

"چلو اب دیر ہو رہی ہے۔" خالد کی آواز سن کر مایا نے چونک کر چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کا دامن کانٹوں سے الگ ہو چکا تھا اور خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وہ بولی:۔

"آپ جالیے! میں خود آجاؤں گی لیکن میں آپ سے آخری بار صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ میں بے قصور ہوں۔ اگر میرا بھائی اس سازش میں شریک تھا تو بھی یہ انصاف نہیں کہ اس کے پاپ کی سزا مجھے ملے۔"

خالد نے جواب دیا: "میں تمہیں سزا نہیں دینا چاہتا۔ تمہیں بہت جلد تمہارے بھائی کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ تمہارا بھائی بھی تم سے دور نہیں۔ وہ یہاں سے چار کوس دور دریا کے کنارے ایک ٹیلے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ وہ راجہ سے انعام حاصل کرنے کے لیے قیدیوں کو برہن آباد لے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ دہلی کا حاکم

کی طرف مائل ہوتے اور وہ وحشی ہرنی کی طرح کتر کر بھاگی۔

خالد نے جواب دیا۔ ”میرے دل میں شاعری کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ دیبل کے قافلے کی خبر سن چکے ہوں گے۔“

”ہاں میں سن چکا ہوں۔ ان کے ساتھ دو سو مسلح سپاہی ہیں ہم مٹھی بھر آدمیوں کے ساتھ ان پر حملہ نہیں کر سکتے۔ میں بے رام کو یہاں لانے کی تجویز سوچ چکا ہوں۔“

”دیکھا اس لڑکی کی باتوں میں اگرناہید بے رام کے متعلق اپنے خیالات بدل چکی تھی اور آپ بھی متاثر ہو رہے تھے۔“

گنگو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ”بیٹا! تم مجھ سے زیادہ متاثر تھے۔ بہر حال مجھے اب یقین ہو چکا ہے کہ مایا معصوم ہے۔“

”اور اس کے باوجود آپ بے رام کو مایا کے قتل کی دھمکی دینا چاہتے ہیں۔“

”تمہارے ساتھیوں کو آزاد کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔“

”لیکن اگر بے رام نے اپنے راجہ کی خوشی پر اپنی بہن کو قربان کر دیا تو؟“

”مجھے ایسی امید نہیں لیکن اگر بے رام اس قدر ذلیل ثابت ہوا تو مایا جیسی لڑکی کو ایسے ظالم بھائی کے ہاتھوں سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ وہ خود بھی بے رام کی بجائے تمہاری پناہ کو ترجیح دے گی۔ چند دنوں تک تمہاری بہن سفر کے قابل ہو جائے گی، اور ہم تمہیں مکران کی حدود کے اندر پہنچا دیں گے۔“

”لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑ کر چلے جائیں۔“

”تم وہاں جا کر ان کی زیادہ مدد کر سکو گے۔ عیروں کے علاوہ سرانڈیپ کے ملاحوں کو بھی قید میں رکھنے جانے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ تمہارے جہازوں کے لوٹے جانے کی خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ اگر یہ خبر وہاں تک پہنچ گئی تو تمہاری قوم اسے خاموشی سے برداشت نہیں کرے گی لیکن تم اس وقت تک نہیں جا سکتے۔ جب تک

بھی ہے۔ کل تک وہ برہمن آباد پہنچ جائیں گے۔ شاید آج رات ہی تمہارے بھائی کے پاس ہمارا پیغام پہنچ جاتے اور اگر اس نے قیدیوں کو چھوڑنا منظور کر لیا، تو تمہیں اس کے پاس پہنچا دیا جائے گا۔ میں شروع سے اس بات کا حامی نہ تھا کہ تمہیں یہاں رکھا جائے۔ ہمارا اخلاق ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم ایک بے بس عورت پر ہاتھ ٹھیلے۔ تم اطمینان رکھو۔“

”آپ کو کس نے بتایا کہ میرا بھائی قیدیوں کو لے جا رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ پرتاپ کے ساتھ وہ بھی ایک قیدی کی حیثیت میں جا رہا ہو۔“

”میں آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ وہ ایک مشکلی گھوڑے پر سوار تھا، اور قیدی، بیل گاڑیوں پر بھی پاب زنجیر تھے۔ چلو اب دیر ہو رہی ہے۔ گنگو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔“

”آپ جائیں! میں ابھی آتی ہوں۔“

(۳)

خالد گھوڑے کی باگ پکڑ کر پیدل چلتا ہوا قلعے کے دروازے تک پہنچا۔ گنگو باہر اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔

اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ”خالد! مایا کو کہاں چھوڑ آئے؟“

خالد نے بے پروائی سے جواب دیا۔ ”وہ آ رہی ہے۔“

”رات ہو رہی ہے۔ تم اسے ساتھ کیوں نہ لے آئے؟“

”آپ لے آئیں، وہ کہتی تھی تم جاؤ۔ میں ابھی آتی ہوں۔“

گنگو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ”یہ عورت بھی عجیب مخلوق ہے۔ وہ چھپ چھپ کر تمہاری راہ دیکھ سکتی ہے۔ تمہارے لیے کانٹوں میں الجھ سکتی ہے لیکن تم ذرا اس

ہے۔ میں جاتا ہوں۔ کہیں دریا کے کنارے بہاری کشتی اس کی تباہی کا باعث نہ ہو۔“

(۴)

خالد کے جانے کے بعد مایا کچھ دیر اس خاردار جھاڑی کے قریب کھڑی رہی وہ کانٹے جو اس کے دامن کھینچ کر خالدا کے ہاتھوں تک لے گئے تھے۔ اس کے لیے مہکتے پھولوں سے کم نہ تھے۔ وہ ان چند لمحات کا تصور کر رہی تھی، جب خالدا اس سے اس قدر قریب تھا۔ اس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ وہ یکے بعد دیگرے زہر اور شہد کے گھونٹ اپنے حلق سے اتار رہی تھی۔ اس کا دل خالدا کے متعلق متضاد خیالات کی رزم گاہ تھا۔ وہ کبھی اسے تہ و غضب کا پیکر محسوس اور کبھی ایثار و عبرت کا دیوتا خیال کرتی۔ تھوڑی دیر وہاں کھڑی رہنے کے بعد وہ اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرنے لگی اور چاند کی روشنی میں درختوں اور جھاڑیوں سے چھٹی ہوئی دریا کی طرف چل دی۔

دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی تھی۔ وہ کشتی جس نے انھیں سمندر سے یہاں تک پہنچایا تھا۔ جس پر سفر کرتے ہوئے اس نے پہرہوں آسمان کے ستاروں سے باتیں کی تھیں اس نے کشتی کے ایک سرے پر بیٹھ کر نیچے پاؤں لٹکا دیے۔ پانی کی لہریں اس کے پاؤں کو چھو رہی تھیں۔ اس پاس جنگل میں گیدڑوں اور بھیڑیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مایا نے اپنے دل سے سوال کیا: ”اگر کوئی بھیڑیا اس طرف آجائے تو؟“ اور پھر خود ہی جواب دیا۔ ”اگر بھیڑیا آجائے تو میں بھاگنے کی کوشش نہ کروں گی میں کشتی سے اتر کر اس کے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی اور پھر جب وہ صبح کے وقت میری لاش دیکھے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کہے گا، مایا! تم ادھر کیوں آئیں گی میں تو تھوڑے

کہنا بہتر ندرست نہیں ہوتی۔ اگر بے رام ہمارے قابو میں آ گیا تو یہ ممکن ہے کہ ہم کم از کم زہیر کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں“

”اگر یہ ہو سکے، تو بہت اچھا ہوگا۔ میں عرب میں کسی کو نہیں جانتا ممکن ہے کہ لہیرہ اور دمشق میں میری آواز پر کوئی توجہ نہ دے لیکن زہیر وہاں ہزاروں آدمیوں کو جانتا ہے۔ ہاں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ آج رات میرے ذمہ کیا کام ہے؟“

گنگو نے جواب دیا۔ ”تم آرام کرو، لیکن مایا دیوی ابھی تک نہیں آئی۔ شاید وہ دوسرے راستے قلعے میں پہنچ گئی ہو۔“

”میں ابھی محسوس کرتا ہوں۔“ یہ کہہ کر خالدا بھاگتا ہوا قلعے میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے واپس آ کر گنگو کو اطلاع دی کہ وہ اندر نہیں پہنچی۔“

گنگو نے کہا۔ ”تم اسے کتنی دور چھوڑ آئے تھے؟“

”ان جھاڑیوں کے پیچھے کوئی سونو قدم کے فاصلے پر“

”تم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی تو نہیں کی؟“

نہیں لیکن اسے میری ہر بات پر آنسو بہانے کی عادت ہو چکی ہے۔ ہاں میں

ایک غلطی کر چکا ہوں۔“

”وہ کیا؟“

”میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی یہاں سے چار کوس پر ہے۔“

”رات کے وقت اس جنگل کو عبور کرنا ایک عورت کا کام نہیں۔“ یہ کہتے ہوئے

گنگو نے اپنے ساتھیوں کو آواز دے کر بلایا اور جنگل میں مایا کو تلاش کرنے کا حکم دے

کر خالدا سے کہا۔ ”میرے خیال میں وہ ابھی تک اس خاردار جھاڑی سے باتیں کر رہی

تھی۔ تم اس طرف جاؤ۔ میں دریا کی طرف جاتا ہوں۔ مجھے اس پر شک

نہیں لیکن مایوسی کی حالت میں عورت تو قلعے کے خلاف بھی بہت کچھ کر سکتی



دقت یہاں کیا کر رہی ہو؟“

”کچھ نہیں“ اس نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا۔

”تم رو رہی ہو۔ کیا ہوا؟“

مایا خاموش رہی۔ گنگو نے پھر پوچھا۔ ”اس دقت ایسی سنسان جگہ پر تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ سنو، چاروں طرف سے بھیڑیوں کی آوازیں آرہی ہیں۔ چلو میرے ساتھ!“

مایا نے کہا۔ ”میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں“

”وہ کیا؟“

”آپ سچ پوچھتے ہیں؟“

گنگو نے جواب دیا۔ ”میں اپنا فیصلہ بتانے سے پہلے تمہارا فیصلہ سنا چاہتا

ہوں۔“

بھگوان کے لیے مجھے اس کے پاس نہ بھیجتے!“

”لیکن کیوں؟“

”میں بھائی کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ جس نے میری ماں کے دودھ کی

لاج نہیں رکھی۔“

”یہ تم دل سے کہہ رہی ہو یا مجھے بنانے کے لیے؟“

”کاش آپ میرا دل چیر کر دیکھ سکتے۔“

”لیکن بے رام سے نفرت کی دہر؟“

”میں خالد سے اس کے متعلق سن چکی ہوں اور اب مجھے اس کی دغا بازی کے

متعلق کوئی شبہ نہیں رہا۔“

”لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم تمہیں تمہارے بھائی کے حوالے کر کے ذمہ کے ساتھ

ساتھ مذاق کرتا تھا میں جانتا تھا، تم بے قصور ہو۔ مایا مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کی۔ نہیں نہیں! وہ شاید یہ نہ کہے۔ وہ کہے گا۔ یہ دیوانی تھی یہ بگلی تھی۔ ہاں میں سچ پوچھی ہوں۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ میرا دامن کانٹوں سے چھڑا رہا تھا اور میں سمجھ رہی تھی کہ مجھے دنیا کی بادشاہت مل گئی۔ میں دریا کے کنارے ریت کے گھر دندے بنا رہی تھی اس کا دل پتھر کا ہے۔ وہ ظالم ہے۔ اسے کسی پر اعتبار نہیں، اور ہر بھی کیونکر، میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ کاش! وہ میرا بھائی نہ ہوتا۔ کاش اس نے جہاز ہی پر مجھے بتا دیا ہوتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ دھوکا کرنے والا ہے اور وہ چھپ چھپ کر خالد کو دکھیتی۔ اب وہ مجھے بھائی کے پاس بھیجنے والے ہیں لیکن اگر اس کا انجام یہی تھا تو قدرت نے مجھے اس کے جہاز پر کیوں پہنچایا؟ اور پھر جب ہم دہلی سے جدا ہونے والے تھے، قدرت ہمیں یہاں کیوں لے آئی؟ میں اب تک اس کی نفرت کے باوجود اسے محبت کی نگاہوں سے کیوں دیکھتی رہی۔ میں نے مایوسی کی آنکھوں میں کھڑی ہو کر امید کے چراغ کیوں جلاتے۔ ہاں میں مجسبو تھی۔۔۔۔۔ یہ میرے بس کی بات نہ تھی۔۔۔۔۔ میں اب بھی بے بس ہوں۔۔۔۔۔ میرا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ میرا کوئی نہیں۔۔۔۔۔ میں اپنے بھگوان کو پکار چکی ہوں، جس کی وہ دن میں پانچ بار عبادت کرتا ہے لیکن میرے لیے آنسوؤں اور آہوں کے سوا کچھ نہیں۔ آنسو اور آہیں۔ کاش! میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ کاش! سمندر کی لہریں مجھ پر ترس نہ کھاتیں۔“

مایا سر کو بائٹوں کو سہارا دے کر دیر تک ہچکیاں لیتی رہی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ”مایا“ کہہ کر پکارا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ گنگو اس کے قریب کھڑا تھا۔ اس نے کہا۔ ”بیٹی! تم ڈر گئیں، اس

مایا نے قدرے پر امید ہو کر جواب دیا: "میں آپ کی قید کو آزادی پر ترجیح دوں گی۔"

"وہ کیوں؟"

"میں ناہید کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی۔"

"مایا! میں ایک سوال پوچھتا ہوں، سچ کو، تمہیں خالد کے ساتھ محبت ہے؟ مایا نے آنکھیں جھکا لیں۔"

اس نے پھر کہا: "مایا! میرے سوال کا جواب دو۔"

وہ بولی: "لیکن آپ یہ کیوں پوچھتے ہیں؟"

"اس لیے کہ شاید اس سوال کا جواب پوچھ کر میں تمہارے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر سکوں۔"

"مجھے معلوم نہیں، لیکن میں صرف یہ جانتی ہوں کہ میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔"

"تم یہ بھی جانتی ہو کہ تمہارے متعلق اس کے شکوک ابھی تک رفع نہیں ہوئے۔"

اس کا دل سمندر کی چٹانوں سے زیادہ سخت ہے۔ میں تمہیں مٹی کہہ چکا ہوں۔ آج سے تمہارا اسکے میرا اسکے اور تمہارا دکھ میرا دکھ ہوگا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی دن آگ اپنا بنا لینے کی امید پر سب کچھ قربان کر دو۔ ممکن ہے اسے تمام عمر تمہاری نیک نیتی کا یقین نہ آئے۔ اپنے متعلق اس کے خیالات بدلنے کے لیے تمہیں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی۔"

"میں ہر قربانی کے لیے تیار ہوں لیکن مجھ سے ہمیشہ کی جدائی برداشت نہیں ہو سکتی۔"

"تمہیں بھائی کا خیال تو نہیں ملتے گا؟"

کو آزاد کر دیا سکیں۔"

"اگر جے رام ایک دفعہ دھوکا کر چکا ہے تو وہ دوبارہ موقع ملنے پر بھی ایسا ہی کرے گا۔ اسے کسی صورت بھی یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں آپ کے پاس ہوں۔ ورنہ وہ راجہ کے سپاہیوں کو ساتھ لے کر جنگل کا کونہ کونہ چھان مارے گا۔ ناہید اچھی طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوئی۔ آپ کے لیے اس کی حفاظت بہت مشکل ہو جائے گی۔"

بیٹی اتم اطمینان رکھو۔ جے رام کو تمہیں میرے قبضہ میں دیکھ کر سب مکاریاں بھول جائیں گی۔ اگر بعد میں اس کی طرف سے کوئی خدشہ بھی پیش آیا۔ تو ناہید کے لیے میں ایک اور محضو جگہ تلاش کر چکا ہوں۔"

"تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے قیدی آپ کے حوالے کر دیے تو آپ مجھے اس کے سپرد کر دیں گے؟"

"بیٹی! وہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے پاس جانے سے کیوں ڈرتی ہو؟"

"میرا دنیا میں کوئی نہیں، بھائی نے مجھے اپنے مقصد پر قربان کرنا چاہا اور میں آپ کے قبضے میں آگئی۔ اب آپ مجھے مٹی کہہ کر اپنے مقصد کے لیے پھر اس کے پاس بھیجا چاہتے ہیں، اپنے بھائی کی طرح آپ کا فیصلہ بھی میرے لیے تقدیر کا حکم ہو گا۔ کاش! میری تقدیر میرے ہاتھ میں ہوتی۔ کاش! مجھے اس دنیا میں اپنا راستہ تلاش کرنے کا حق ہوتا لیکن میری پسند اور ناپسند کے کوئی معنی نہیں ہیں اس طوفان میں ایک تنکا ہوں جسے ہوا کا جھونکا جس طرف چاہے اڑا کے لے جاسکتا ہے۔ میرا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔"

گنگو نے کچھ سوچنے کے بعد کہا: "اگر یہ معاملہ تمہاری پسند پر چھوڑ دیا جائے تو تم کیا کر دو گی؟"

”اے بے چاری!“

خالد نے بدحواس ہو کر پوچھا۔ ”کماں چلی گئی۔ کیا ہوا؟“

”خالد تم نے بہت بُرا کیا۔ کاش تم اس کا دل نہ توڑتے۔“

”آخر کیا ہوا؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔“

”اب پچھتانے سے فائدہ؟ جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ کاش وہ تم جیسے سنگدل انسان

سے محبت نہ کرتی!“

خالد نے بے تاب ہو کر گنگو کو کندھوں سے کپڑے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ ”خدا کے

لیے مجھے پریشان نہ کرو۔ صاف صاف کہو کیا ہوا؟“

”مایا پل بسی۔ میں یہاں پہنچا، تو وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے آواز

دی اور اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے دریا میں جھلانگ لگادی میں نے جلدی

جلدی کپڑے اتارے لیکن اتنی دیر میں اسے پانی کی لہر کنارے سے بہت دور لے

گئی۔ جب میں پانی میں کودنے لگا وہ لہروں کی آغوش میں چھپ چکی تھی۔“

خالد نے چلا کر کہا۔ ”مایا ڈوب رہی تھی اور تم اطمینان سے کنارے کھڑے کپڑے

اتار رہے تھے، بے رحم! ظالم! ڈاکو!!! میں سمجھتا تھا کہ تم انسان بن چکے ہو۔“

گنگو نے کہا۔ ”میں کپڑوں سمیت جھلانگ لگا دیتا تو خود ڈوب جاتا۔“

”تو تم سمجھتے ہو کہ تمہارے ڈوبنے سے دنیا میں کوئی کمی آجاتی؟“

”تو اس کے مرنے سے دنیا میں کون سی کمی آگئی ہے۔ بھائی سے اس کا دل ٹوٹ

چکا تھا تمہارے طرز عمل سے وہ مایوس ہو چکی تھی۔ اچھا ہوا۔ وہ گھل گھل کر مرنے کی بجائے

دریا میں ڈوب کر گئی۔ ہاں جب میں کپڑے اتار رہا تھا اور لہریں اسے دھکیل کر منجھوا رہی

کی طرف لے جا رہی تھیں۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ گنگو! مجھے بچانے کی کوشش بے نو

ہے۔ خالد کو میرا سلام کہنا۔ میں اس کی محبت سے مایوس ہو کر زندہ نہیں رہنا چاہتی۔“

”راہ کے ٹکڑے کھانے کے بعد وہ میرا بھائی نہیں رہا۔ مجھے اس سے کوئی

بہمدردی نہیں۔“

گنگو نے کہا۔ ”میں اسے ایک طریقے سے یہاں لانا چاہتا ہوں۔ اس کی

صورت دیکھ کر تمہارا دل پیسج تو نہ جائے گا۔ اس نے اپنے محسنوں سے دغا

کی ہے۔ اگر اس کی سزا تم پر چھوڑ دی جائے تو تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر دگی؟“

”وہی جو ایک دغا باز، فریبی اور بزدل کے ساتھ ہونا چاہیے۔“

گنگو نے کہا۔ ”مایا! مجھے سوچ کر جواب دو۔ یہ ایک کڑا امتحان ہے۔ ممکن

ہے کہ میں تمہارے بھائی کو تمہارے سامنے کھڑا کر کے تمہارے ہاتھ میں انصاف

کی تلوار دے دوں۔“

”میں سوچ چکی ہوں۔ میں اسے رحم کا مستحق نہیں سمجھتی۔“

گنگو کچھ کنا چاہتا تھا لیکن جھاڑیوں کے پیچھے سے خالد کی آواز آئی۔ ”مایا! مایا تم

کہاں ہو؟“

گنگو نے مایا سے کہا۔ ”تم کشتی میں چھپ جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں، باہر

نہ آنا۔“

مایا نے کچھ سوچے سمجھے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گنگو کشتی سے اتر کر دریا کے

کنارے کھڑا ہو گیا۔ خالد نے پھر آواز دی، اور اس نے کہا۔ ”خالد میں ادھر ہوں؟“

(۵)

خالد نے جھاڑیوں کے عقب سے منوراد ہو کر پوچھا۔ ”مایا نہیں ملی؟ آپ یہاں

کیا کر رہے ہیں؟“

گنگو نے اپنے لہجے کو معوم بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ”مایا چلی گئی۔“

گنگو نے پھر کہا۔ ”خالد! تمہیں اب ایک مرد کے حوصلے سے کام لینا چاہیے۔“  
”گنگو! تم جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔“

”اچھا تمہاری مرضی“ گنگو یہ کہہ کر چل دیا لیکن قلعے کا رخ کرنے کی بجائے جھاڑوں میں پھینتا ہوا کشتی کے قریب ایک درخت کی آڑ میں جا کھڑا ہوا اس نے آہستہ سے آواز دی۔ ”مایا! اب نکل آؤ۔“

مایا کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ خالد اور گنگو کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ اس موت کو جو اسے خالد کے دل سے اس قدر قریب لاسکتی تھی ہزار زندگیوں پر ترجیح دینے کے لیے تیار تھی۔ وہ خالد کی آہیں سن رہی تھی اور اسے خدشہ تھا کہ اس مذاق کے بعد خالد اس سے ہمیشہ کے لیے بظن ہو جائے گا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ کاش میں سچ بچ دیا میں کو دکھائی ہوتی، اور ان کی آنکھوں میں یہ خیال ایک خوفناک ارادے میں تبدیل ہو گیا۔ گنگو نے پھر آہستہ سے آواز دی۔ مایا کے لیے سوچنے اور فیصلہ کرنے کا موقع نہ تھا۔ اس نے اچانک اٹھ کر پانی میں چھلانگ لگا دی۔

گنگو ”مایا! مایا!“ کہتا ہوا بھاگا۔ خالد بدحواس ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا اور دونوں بیک وقت دریا میں کود پڑے۔ گنگو کہہ رہا تھا۔ ”خالد! پچھو یہ مایا ہے مایا ٹھہرو! آگے پانی بہت خطرناک ہے۔“ لیکن وہ تیر کر تیز دھارے میں جانے کی کوشش کر رہی تھی۔

خالد تیزی سے پانی کو چیرتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ مایا نے غوطہ لگا دیا لیکن اچھی خاصی تیراک کے لیے اپنے آپ کو پانی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ممکن نہ تھا۔ اس نے جلد ہی اپنا سر پانی سے باہر نکال لیا۔ اور پھر سنبھار کر کی طرف جانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن خالد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنی دیر میں گنگو بھی پہنچ گیا اور دونوں مایا کو سہارا دے کر کنارے کی طرف تیرنے لگے۔

کنارے پر پہنچ کر گنگو نے کہا۔ ”خالد! اب مجھے اس لڑکی پر کوئی اعتبار نہیں رہا۔“

خالد دیر تک بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ گنگو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ”خالد چلو! اب انہوں سے کیا حاصل ہو جہونا تھا سو ہو چکا۔“ خالد نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا۔ ”تم جاؤ!“ گنگو نے کہا۔ ”آج رات ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں چلو۔“ خالد نے سخت لہجے میں کہا۔ ”گنگو خدا کے لیے جاؤ! مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔“

وہ بولا۔ ”خالد! مجھے معلوم نہ تھا کہ مایا کی موت کا تمہیں اس قدر صدمہ ہوگا۔ درنہ میں اپنی جان پر کھیل کر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا۔“ خالد نے سہمراں ہوتی آواز میں کہا۔ ”اس کی موت کا صدمہ! گنگو تمہارے پہلو میں ایک انسان کا دل نہیں۔ یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے بڑا حادثہ ہے۔ اس کی موت کا باعث میں ہوں اور میں مرتے دم تک اپنے آپ کو معاف نہیں کروں گا۔“ ”لیکن تم تو مجھ سے کئی بار یہ کہ چکے تھے کہ مایا لڑکی کو اس کے بھائی کے پاس بھیج دو اگر تمہیں اس سے جلا ہونے کا انہوں نے نہ تھا تو اس کی موت کا اس قدر رنج کیوں ہے؟“ ”گنگو خدا کے لیے میرے رنجوں پر تمک نہ پھرو۔ میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی اور یہ سزا میری قوت برداشت سے زیادہ ہے۔“

”خالد چھوڑو ان باتوں کو، مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ایک بار پھر زندہ ہو جائے تو مجھے تمہارا عذر نہیں اس کی محبت کا جواب دینے کی اجازت نہیں دے گا۔ تم اس کے ساتھ اسی طرح پیش آؤ گے۔ چلو ایک دو دن میں تم اسے قبول جاؤ گے۔“ خالد کوئی جواب دینے بغیر ایک گھرے ہوئے درخت کے تنے پر بیٹھ گیا، اور دریا کی لہروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے درد بھری آواز میں کہا۔ ”مایا! مایا! یہ تم نے کیا کیا!“

## بہن اور بھائی

علی الصباح قلعہ سے چار کوس کے فاصلے پر دریا کے کنارے پر تپ راتے کے سپاہی سفر کی تیاری کر رہے تھے۔ جے رام دریا میں نہا کر کپڑے بدل رہا تھا کہ پاس ہی ایک جھاڑی کے عقب سے ایک سنسانا ہوا تیر آیا، اور اس کے پاؤں کے نزدیک زمین میں پوست ہو گیا۔ تیر کے ساتھ ایک سفید رومال بندھا ہوا تھا۔ جے رام نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد زمین سے تیر نکالا اور اس کے ساتھ بندھا ہوا رومال کھول کر دیکھنے لگا۔ جس پر کونلے کے ساتھ یہ چند حروف لکھے ہوئے تھے:

”جے رام! میں تمہیں کس نام سے پکاروں۔ تم کو بھائی کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اگر میری جان بچانا چاہتے ہو، تو گنگو کے ساتھ چلے آؤ، ورنہ میری خیر نہیں۔“

تمھاری بد نصیب بہن

مایا

جے رام نے بھاگتے ہوئے جھاڑیوں کے قریب پہنچ کر آواز دی۔ ”گنگو! گنگو! تم کہاں ہو؟“

اسے تمھاری بے رخی نے پاگل بنا دیا ہے۔“ اور پھر مایا سے مخاطب ہو کر پوچھا: ”مایا! تم نے دریا میں چھلانگ کیوں لگائی؟“

اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ ”آپ نے ان کے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا تھا؟ گنگو نے خالد سے کہا۔ ”بھئی بھئی معاف کرنا۔ میں نے تمہیں چھپانے کے لیے مایا کو کشتی میں چھپا دیا تھا لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ سچ بچ ایسا کر دکھائے گی۔ تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو اور میں خوش ہوں۔“

خالد نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف آنسو تھے۔ محبت خوشی اور تشکر کے آنسو!

گنگو نے پوچھا۔ ”اب مایا کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے؟“

اس نے جواب دیا۔ ”مایا کے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کا کسی کو حق نہیں وہ اپنے متعلق خود فیصلہ کر سکتی ہے۔“

گنگو نے آہستہ سے جواب دیا۔ ”میں یہاں ہوں اس طرف“  
 جے رام جھاڑیوں میں سے گزر کر اس کے قریب پہنچا۔ گنگو گھوڑے پر سوار تھا۔  
 جے رام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور بیقرار سا ہو کر پوچھا ”گنگو! مایا کہاں ہے؟ وہ کس  
 حال میں ہے۔ وہ تمہارے پاس کیسے پہنچی؟“  
 گنگو نے جواب دیا۔ ”مایا زندہ ہے اور میں تمہیں اس کے پاس لے جا سکتا  
 ہوں کہو تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟“  
 ”میں؟ مایا کے لیے سات سمندر عبور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جھگوان کے لیے  
 بتاؤ وہ کہاں ہے؟“

”وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں۔ تم میرے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ۔“  
 ”اگر زیادہ دور ہو تو میں اپنا گھوڑا لے آؤں۔“  
 ”تم اپنا گھوڑا لاسکتے ہو لیکن اگر تم نے پھر کوئی چالاکی کی تو یاد رکھو۔ مایا کو کبھی نہیں  
 دیکھ سکو گے۔ میں یہاں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔“  
 ”میں ابھی آتا ہوں۔“ جے رام یہ کہہ کر نیلے کی طرف بھاگا۔ گنگو احتیاط کے طور  
 پر اس جگہ سے ہٹ کر گھنے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جے رام نے  
 جھاڑی کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور گنگو کو وہاں نہ پا کر آواز دی۔ گنگو نے مطمئن ہو کر  
 اسے اپنے پاس بلا لیا۔

گنگو کے ساتھ چلنے سے پہلے جے رام نے اس سے کئی سوالات پوچھے، لیکن  
 گنگو نے صرف یہ جواب دیا کہ مایا کے پاس پہنچ کر تمہیں سب حال معلوم ہو جائے گا۔ جنگل  
 میں تھوڑی دور چلنے کے بعد گنگو کے دس اور مسلح ساتھی جھاڑیوں کی آڑ سے نکل کر ان کے  
 ساتھ شامل ہو گئے۔ جے رام کو گنگو کی نیت پر شبہ ہوا اور اس نے لگام پیچ کر گھوڑے  
 کو روکتے ہوئے پوچھا ”گنگو! کیا؟“ لیکن اس سے پہلے کہ گنگو کوئی جواب دیتا اس کے

ساتھیوں نے جے رام کو چاروں طرف گھیر لیا اور ایک نے آگے بڑھ کر اس کے  
 سے گھوڑے کی لگام پھین لی۔ گنگو کی توقع کے خلاف جے رام نے کوئی مدافعت  
 نہ کی اور جب اس کے ساتھیوں نے اس کے ہتھیار چھیننے کی کوشش کی تو اس نے  
 خود ہی اپنی تلوار کمان اور ترکش اتار کر ان کے حوالے کر دیے۔

کمر کے پتلے میں ایک چھوٹا سا خنجر لٹک رہا تھا۔ گنگو کے ایک ساتھی نے وہ سبھی  
 اتارنا چاہا لیکن اس نے اشارے سے منع کیا۔  
 جے رام نے کہا۔ ”تمہیں معلوم ہے کہ میں مایا کا پیغام سننے کے بعد بھاگ نہیں  
 سکتا۔“

گنگو نے جواب دیا۔ ”تم بھاگنے کی کوشش بھی کر دو تو کامیاب نہیں ہو سکتے اس  
 جنگل میں جگہ جگہ تیرا ناز چھپے ہوئے ہیں۔“  
 ”لیکن گنگو میں نے تم سے کوئی وعدہ خلائی نہیں کی۔ تم جہاں کہو میں چلنے  
 کے لیے تیار ہوں۔“

”جو شخص زیر جیہے مومن کے ساتھ دغا کر سکتا ہے۔ مجھے اس کی کسی بات پر اعتبار  
 نہیں آ سکتا۔ تمہاری خیر اسی میں ہے کہ آنکھیں بند کر کے میرے ساتھ چلے رہو۔  
 قلعہ چار کوس سے زیادہ دور تھا لیکن گنگو نے مصلحتاً طویل اور دشوار گزار راستہ اختیار  
 کیا۔ قلعے کے سامنے پہنچ کر سوار گھوڑوں سے اترے۔ جے رام کو خالد قلعے سے باہر آنا  
 ہوا دکھائی دیا۔ وہ اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر آگے بڑھا۔ ”خالد! خالد! تم بھی یہاں ہو  
 تم بھی یہاں ہو۔ تمہاری بہن کہاں ہے؟“

خالد نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کی بجائے کمر آگے گنگو  
 کے پاس آکھڑا ہوا۔ جے رام کے دل پر چرکا لگا۔ اس کے پاؤں زمین میں گڑ گئے۔ وہ  
 ہاتھ جو خالد کے استقبال کے لیے اٹھے تھے، جھکے جھکے پہلوؤں سے آگے اس

خالد کے ہاتھ کی ضرب منہ سے زیادہ دل پر محسوس کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔  
 ”خالد! تم —؟“

گنگو کے ساتھیوں کی تواریں نیاموں سے باہر اچھی تھیں۔ لیکن اس نے انہیں تم کے اشارے سے منع کیا اور بے رام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ”اب بتاؤ تم اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے زبیر کے ساتھیوں کو قید سے چھڑانے کے لیے تیار ہو؟“

جے رام نے زخم خوردہ سا جواب دیا۔ ”تو کیا تم بھی زبیر کی طرح یہ سمجھنے ہو کہ میں پرتاپ رائے کی سازش میں شریک تھا؟“

گنگو نے جواب دیا۔ ”نہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرتاپ رائے تمہاری سازش میں شریک تھا۔ تم نے اسے مراد پ کے ہاتھیوں اور جہازات کالالچ دے کر جہاز لٹنے کے لیے آمادہ کیا۔“

”بھگوان جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔“

گنگو نے جواب دیا۔ ”بھگوان اس سے زیادہ جانتا ہے۔ اس وقت تمہارا کام تمہاری بے گناہی پر بحث کرنا نہیں۔ ہم صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم اپنی بہن کے لیے ان بے گناہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟“

جے رام نے جواب دیا۔ ”کاش! انہیں چھوڑنا میرے بس میں ہوتا۔ وہ اس وقت دو سو سپاہیوں کے پورے میں برہمن آباد جا رہے ہیں اور میں اکیسلا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔“

”تو تم ہمیں یہ بتانا چاہتے ہو کہ تمہارے اپنے سپاہی تمہارا کہا نہیں مانتے؟“

”کاش! وہ میرے سپاہی ہوتے۔ قیدیوں پر پرتاپ رائے کا پرہ اس قدر سنگین

نے بے جا دگی اور بے بسی کی حالت میں چاروں طرف دیکھا اس کی نگاہیں پھر ایک بار خالد کے چہرے پر جم گئیں۔ خالد نے منہ پھیر لیا۔

جے رام نے انتہائی کرب کی حالت میں کہا۔ ”خالد! مجھے معلوم نہیں۔ میں تم سب کی نظروں میں اس قدر حقیر کیوں ہو گیا ہوں۔“ میں بے قصور ہوں۔ میرے ساتھ اس طرح پیش نہ آؤ۔ مایا کہاں ہے؟“

(۲)

پیچھے سے آواز آئی۔ ”میں یہاں ہوں۔“ جے رام نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ مایا چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ”مایا! مایا! میری بہن! میری ننھی بہن! وہ یہ کہہ کر مایا کی طرف بڑھا لیکن وہ پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی۔ ”ظالم! اکیس، دعا باز! مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ تم نے ایک راجپوت باپ کے خون اور ایک راجپوت ماں کے دودھ کی لاج نہیں رکھی تم میرے کچھ نہیں لگتے۔ تمہارا دامن اپنے مصلوں کے خون سے داغدار ہے۔“

اگر کوئی جے رام کا سینہ خنجر سے چھلنی کر ڈالتا، تو بھی شاید اسے اس قدر تکلیف نہ ہوتی اس کے دل میں غصے کی آگ کے شعلے بھڑکے اور غم کے آنسوؤں سے بچھ گئے اس نے پھر ایک بار چاروں طرف دیکھا۔ گنگو کے چہرے پر ایک حقارت آمیز تہمت دیکھ کر اس کا منہ خون کھولنے لگا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں پھینچتا اور ہونٹ چباتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ”ذلیل ڈاکو! ان سب باتوں کے ذمہ دار تم ہو۔ تم نے ان سب کو میرے خلاف کیا ہے۔“ پشتر اس کے کہ گنگو کے ہاتھ مدافعت کے لیے اٹھتے، جے رام نے اچانک دوڑتے ہوئے اس کے منہ پر دے مارے۔ گنگو اپنے گال سہلانا ہوا پیچھے ہٹا۔ خالد نے آگے بڑھتے ہوئے ایک حکا جے رام کے منہ پر مارا۔ جے رام نے

گنگو بولا: "تو اب تم راجہ کے پاس قیدیوں کی سفارش کے لیے جا رہے ہو؟"  
 "آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا؟"  
 "اپنی بہن سے پوچھ لو۔ اگر اسے تمہاری باتوں پر اعتبار آگیا ہو تو ہم بھی تم پر اعتبار کرنے کے لیے تیار ہیں۔" یہ کہہ کر گنگو مایا سے مخاطب ہوا: "ہم تمہارے بھائی کا فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں۔"

جے رام، مایا کی طرف متوجہ ہوا۔ مایا کے لیے یہ گھڑی صبر آزمائی تھی۔ بھائی کی سرگزشت سمجھنے کے بعد اس کے دل میں ایک رد عمل شروع ہو چکا تھا تاہم وہ اس کے متعلق اپنے خیالات فوراً بدلنے کے لیے تیار نہ تھی۔ ضمیر کی ایک آواز اگر یہ کہہ رہی تھی کہ مایا تجھے اپنے بھائی پر اعتبار کرنا چاہیے۔ تو دوسری آواز کہہ رہی تھی کہ نہیں، وہ صرف تمہیں ساتھ لے جانے کے لیے ہلانے بنا رہا ہے۔ اس ذہنی کشمکش کے دوران میں اسے گنگو کے یہ الفاظ یاد آئے۔ "اس کی صورت دیکھ کر تمہارا دل تو پسینے نہ جلنے کا ممکن ہے کہ میں تمہارے ہاتھ میں انصاف کی تلوار دے دوں، مایا نے گنگو کی طرف دیکھا اس کی نگاہیں کہہ رہی تھیں۔ "میں انصاف کی تلوار تمہارے ہاتھ میں دے چکا ہوں۔ اب تم اپنا وعدہ یاد کرو۔"

جے رام نے مایا کے تذبذب سے پریشان ہو کر کہا: "مایا! تمہیں بھی اب مجھ پر اعتبار نہیں آتا؟"

اس نے جواب دیا: "اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ تم نے ان لوگوں کے انتقام کے خوف سے یہ قصہ نہیں سنایا؟"

جے رام نے درد بھری آواز میں کہا: "مایا! تم یہ کتنا چاہتی ہو کہ میں بزدل ہوں میں موت کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھگوان کے لیے مجھے دوسروں کے سامنے شرمسار نہ کرو۔ میں تمہارا بھائی ہوں۔ لیکن اگر تمہیں مجھ پر یقین نہیں آتا تو یہ میرا خیر

جتنے کہ میں ان کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین ہو چکا ہے کہ میں ان کا طرفدار ہوں۔"

گنگو نے اپنے چہرے پر ایک طنز بھری مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا: "تمہاری طرفدار کا شکریہ! اب میرے سوال کا جواب دو۔ تم انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟"

جھگوان کے لیے مجھ پر اعتبار کرو۔ جب تک ان کا معاملہ راجہ کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا۔ میں بے بس ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ راجہ انہیں قید میں رکھ کر جوں سے لڑائی مول لینے کی جرات نہیں کرے گا۔"  
 گنگو نے کہا: "پرتاپ رائے تمہارا دوست ہے اگر اس کے پاس تمہارا خط پہنچ جائے کہ تم ہماری قید میں ہو تو کیا پھر بھی وہ انہیں رہا نہیں کرے گا۔ تم یہ خط لکھ دو اور ہم اسے برہن آباد پہنچنے سے پہلے تمہارا یہ خط پہنچا دین گے۔"

جے رام نے جواب دیا: "وہ نوٹری سے زیادہ مکار اور دھمکی سے زیادہ ظالم ہے۔ مجھے اپنی سرگزشت بیان کرنے کا موقع دو۔ تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ جھگوان کے لیے میری بات مانو۔ پرتاپ رائے کو میری جان بچانے سے زیادہ خالد اور اگرناہید بھی یہاں ہے تو ان دونوں کی تلاش ہوگی۔ جس طرح مجھے اب تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ تم یہاں کیسے پہنچے، اسی طرح تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ وہیل کا واقعہ کس طرح پیش آیا۔"

گنگو اور اس کے ساتھیوں کو متوجہ دیکھ کر جے رام نے بندرگاہ سے رخصت ہونے سے نلے کر قید خانے میں زہیر سے ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کیے اور انتقام پر گنگو اور خالد کی طرف مٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا: "اب بھی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا، تو میں ہر سزا خوشی سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔"



رسید کر دیا تھا۔ اب آپ یہ قرض وصول کر سکتے ہیں۔“  
جے رام نے کہا۔ ”نہیں! اب یہ قسط نہ چھیڑو، ورنہ تمہیں ایک نکامار کر مجھے گنگو  
سے دو وصول کرنے پڑیں گے۔“

(۳)

گنگو اپنی زندگی میں کبھی اس قدر پریشان نہیں ہوا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا جے رام  
نے اس کے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ”گنگو! اگر تم خلوص دل سے  
زیر انداز اس کے سامنے ہوں تو یہ معاملہ چند دن کے لیے بھر پر چھوڑ دو۔  
مجھے امید ہے کہ راجہ صبح خطرات سے باخبر ہو کر انہیں قید میں رکھنے کی جرأت نہیں کرے  
گا، اور اگر اس نے میری بات نہ سنی، تو میں تمہارے پاسن چلا آؤں گا، اور  
پھر ہم کوئی اور تدبیر سوچیں گے لیکن خالد کی بہن کہاں ہے؟“  
”گنگو نے جواب دیا۔ ”وہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جہاز پر زخمی ہو  
گئی تھی۔“  
”اب وہ کیسی ہے؟“

اس سوال کے جواب میں خالد بولا۔ ”اب وہ پہلے سے اچھی ہے لیکن زخم ابھی  
تک مندمل نہیں ہوا۔ میں مایا دیوی کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے اس کی تیمارداری میں  
بہت تکلیف اٹھائی ہے۔“

گنگو نے کہا۔ ”جے رام! اگر پرتاپ رائے نے راجہ کے حکم سے جہاز لوٹے ہیں  
تو مجھے یقین نہیں کہ وہ قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ میرے خیال میں وہ اس  
بات کی کوشش کرے گا کہ یہ خبر سندھ سے باہر نہ نکلے۔ برہمن آباد میں ایسے قید خانے  
ہیں جہاں صرف موت کی صورت میں انسان باہر نکلتے ہیں اس خبر کو محران یا بصرے

لو اور میرادل چیر کر دیکھو کہ میرا ہوا بھی تک سرخ ہے یا سفید ہو چکا ہے۔“ یہ کہتے ہوئے  
جے رام نے اپنا خنجر مایا کے ہاتھ میں دے دیا اور اپنا سینہ اس کے سامنے تان کر بولا  
”مایا! تمہیں باپ کے سفید بالوں کی قسم اپنی ماں کے دودھ کی قسم! اگر میں مجرم ہوں، تو  
یہ خیال نہ کرو کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں یہ جاننے کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا کہ میری بہن  
بھی مجھے بزدل خیال کرتی ہے۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کی نیند سلا دو۔ تمہاری  
رگوں میں اگر ایک راجپوت کا خون ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ رعایت  
نہ کرو۔“

مایا نے جذبات کی شدت میں غیر شعوری طور پر اپنا ہاتھ جس میں خنجر تھا، بلند کیا۔  
جے رام کے ہونٹوں پر ایک دلغریب مسکراہٹ کھلنے لگی۔ خالد نے کپکپی لی۔ مایا نے  
عزم و ہمت کے اس پیکر کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھا۔ اس کا ہاتھ کاپٹنے لگا خالد چلایا۔ ”مایا!  
تمہارا بھائی معصوم ہے۔“ مایا کے کاپٹتے ہوئے ہاتھ سے خنجر گر پڑا۔ آنکھوں میں آنسو  
اندھرتے اور وہ بے اختیار جے رام سے لپٹ کر چکیاں لینے لگی۔ ”بھیا! بھیا! مجھے  
معاف کر دو۔“

جے رام اس کے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بار بار یہ کہہ رہا تھا۔ ”میری بہن  
میری ننھی مایا!“

بہن اور بھائی ایک دوسرے سے علمہ کھڑے ہو گئے۔ خالد نے جے رام کی طرف  
ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ ”جے رام! مجھے معاف کرنا۔ مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے  
تھا۔“

جے رام نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ ”مجھے تم سے کوئی شکایت  
نہیں اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں بھی شاید یہی کرتا۔“  
خالد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ”میں نے ہنگامی جوش میں آپ کے منہ پر مٹکا

تھیں ذرا افاقہ ہوتا ہے۔ تو تم چلنے پھرنے لگتی ہو۔ تمہیں بستر پر لیٹنا چاہیے۔“  
 ناہید نے اس کی بات پر توجہ دیتے بغیر کہا۔ ”تم نے پچارے جے رام پر بہت  
 سستی کی۔ اب مایا کے متعلق تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟“  
 خالد نے جواب دیا۔ ”مایا کے متعلق ابھی بہت کونی فیصلہ نہیں ہوا۔ وہ بہن  
 بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ غالباً وہ اس کے ساتھ چلی جائے گی۔ جے رام  
 نے زبیر کو قید سے چھڑانے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ نما ہوتے ہی عمران کے راتے بصرہ پہنچ  
 کر ہماری سرگذشت سنائے گا۔ عورتوں اور بچوں کے رہا ہونے کی اس کے سوا اور کوئی  
 صورت نہیں کہ ہماری حکومت اس معاملے میں مداخلت کرے۔“  
 ناہید نے کہا۔ ”میں یہ باتیں سن چکی ہوں۔ لیکن مجھے ڈر ہے کہ سن طرح اباجان کے  
 معاملے میں حکومت سیدھ نے عمران کے گورنر کو مال دیا تھا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع  
 ہو جائے گا۔ میں نے سنا ہے کہ بصرہ کا حاکم بہت جاہل ہے۔ لیکن سندھ کی طرف متوجہ  
 نہ ہونے کے لیے اس کے پاس مقبول تہاڑ ہے کہ عرب کی تمام افواج ایشیا اور افریقہ  
 میں بڑے بڑے پیکار ہیں۔“  
 خالد نے پریشان ہو کر کہا۔ ”میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ لیکن میں خدا کی رحمت سے  
 مایوس نہیں۔ وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔“  
 ناہید نے کہا۔ ”میں نے ایک تجویز سوچی ہے۔ میں بصرہ کے حاکم کو خط لکھتی ہوں  
 اگر جے رام زبیر کو رہا کر دے، تو اسے کوہ، یہ خط اس کے حوالے کر دے۔ اگر بالفرض میرا  
 خط حاکم بصرہ کو متاثر نہ کر سکا، تو بصرہ کے عوام اس سے ضرور متاثر ہوں گے۔ میں  
 خواب میں مسلمانوں کو قید خانے کے دروازے توڑتے ہوئے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے اپنے  
 خواب کے صحیح ہونے کا یقین ہے۔“  
 ”تو تم اندر جا کر خط لکھو۔ لیکن کس چیز پر لکھو گی؟ ہاں یہ لو میرا رومال، خالد نے

تک پہنانا ضروری ہے۔ اگر ان کی حکومت نے مداخلت کی تو راجہ یقیناً قیدیوں کو  
 چھوڑ دے گا۔“  
 جے رام نے کہا۔ ”اگر خالد جانا چاہے تو میں اسے نسرحد کے پار پہنچا دینے کی  
 ذمہ داری لیتا ہوں۔“

گنگو نے جواب دیا۔ ”خالد کو میں بھی نسرحد کے پار پہنچا سکتا ہوں، لیکن جب  
 تک اس کی بہن تندرست نہیں ہوتی، اس کے لیے جانا ممکن نہیں۔ اس کے علاوہ  
 عربوں کی فوجیں اس وقت ترکستان اور افریقہ میں لڑ رہی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ سپاہیوں  
 کی قلت کے پیش نظر سندھ کے ساتھ بگاڑ پسند نہ کریں۔ خالد کا خیال ہے کہ اگر زبیر کسی  
 طرح رہا ہو جائے۔ تو یہ ہم اس کے لیے بہت آسان ہوگی۔ وہ بصرہ اور دمشق کے  
 ہر با اثر آدمی کو جانتا ہے۔“  
 جے رام نے کہا۔ ”اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ  
 میں اپنی جان پر کھیل کر بھی زبیر کو قید سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔“  
 مایا نے کہا۔ ”بیٹا! تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ زبیر کی رہائی کی کوشش ضرور  
 کرو۔“

مایا، تجاری سفارش کے بغیر بھی میرا یہ فرض ہے۔ یہ کہہ کر جے رام گنگو سے  
 مخاطب ہوا۔ ”اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مایا سے چند باتیں پوچھنا چاہتا  
 ہوں۔“  
 گنگو کا اشارہ پاکر اس کے ساتھی وہاں سے کھسک گئے۔ گنگو نے ایک طرف  
 ہو کر خالد سے کہا، تم ناہید کے پاس جاؤ، اور اگر وہ قیدیوں کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتی  
 ہو تو پوچھ آؤ۔“  
 خالد اندر داخل ہوا تو ناہید دروازے کی آڑ میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا، ناہید

گنگو اور خالد کچھ فاصلے پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ جے رام نے اُنھیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر اشارے سے اپنے پاس بلا لیا جب قریب پہنچے تو اس نے کہا: ”آپ کو کہیں پھر شک نہ ہو جائے کہ میں کوئی سازش کر رہا ہوں۔ نایا کہتی ہے کہ وہ ناہید کے تندرست ہونے تک ہمیں رہنا چاہتی ہے اور میں بھی بعض مصلحتوں کی بنا پر اُسے یہاں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں چند دنوں تک اسے لے جاؤں گا۔ ممکن ہے کہ مجھے بھی ذیہیر کے ساتھ فرادہ ہونا پڑے اور میں ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ آملوں۔ اب مجھے دیر ہو رہی ممکن ہے کہ راجہ پر تاپ راتے کے شہر میں پہنچتے ہی ہمیں ملاقات کے لیے بلا لے۔ میرا غیر حاضر ہونا ٹھیک نہیں۔“

خالد نے کہا: ”آپ ذرا ٹھہریے۔ ناہید ایک خط لکھ لہری ہے۔ آپ یہ خط ذیہیر کو آزاد کرانے کے بعد اس کے حوالے کر دیں۔“

جے رام نے کہا: ”تم فکر نہ کرو۔ ہم اُن دن سے پہلے تمہیں ایک آسان راستے سے برہمن آباد پہنچا دیں گے۔“

جے رام نے کہا: ”میں فقط آپ کا ایک ساتھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں لیکن یہ ضروری ہے کہ برہمن آباد میں اسے کوئی نہ پہچانتا ہو۔ اگر کوئی نازک وقت آتا تو میں اسے آپ کے پاس اطلاع دینے کے لیے روانہ کر دوں گا۔“

گنگو نے کہا: ”آپ واسو کو لے جائیں۔“

دوپہر کے وقت جے رام واسو کی رہنمائی میں جنگل عبور کر رہا تھا:

اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ناہید کو رومال دیا اور واپس مڑتے ہوئے کہا: ”تم خط لکھو! میں اپنی دیر جے رام کو روکتا ہوں۔“

باہر مایا اپنے بھائی کو آپ بیتی سناری تھی۔ اختتام پر جے رام نے پوچھا: ”مایا! تمہیں یہاں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں؟“

”نہیں“ اس نے جواب دیا۔ ”گنگو مجھے اپنی بیٹی سمجھتا ہے۔ ناہید مجھے اپنی چھوٹی بہن خیال کرتی ہے۔“

جے رام نے کہا: ”مایا! میں تمہیں ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں۔“

مایا نے گہرا کر پوچھا: ”وہ کیا؟“

جے رام نے کہا: ”میں تمہیں اس وقت اپنے ساتھ نہیں لے جاسکتا۔ میں نے تمہارے غائب ہونے کی ذمہ داری پر تاپ راتے پر شہوپی تھی۔ لیکن جب اس نے ذیہیر اور علی کو اذیت دینا شروع کی تو مجھے ان کی جانیں بچانے کے لیے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ تم میرے ساتھ نہ تمہیں۔ اب اگر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو مجھے ناہید اور خالد کا پتہ بتانے پر مجبور کیا جائے گا۔ میں بذاتِ خود راجہ کی سختی سے نہیں ڈرتا لیکن پر تاپ راتے کو شک ہو جائے گا اور وہ ناہید اور خالد کی تلاش شروع کر دے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں دیکھ کر اُنھیں خالد اور ناہید کے ردپوش ہونے کا شک ہو۔ اگر تم چند دن اور یہاں رہنا گوارا کرو تو پر تاپ راتے غالباً تین چار روز تک ڈالیں دیں چلا جائے گا۔ اس کے بعد میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔“

مایا نے اطمینان سے جواب دیا: ”جیسا آپ میری فکر نہ کریں۔ میں یہاں ہر طرح خوش ہوں اور جب تک ناہید تندرست نہیں ہوتی۔ میں اسے چھوڑ کر جانا پسند بھی نہیں کر دوں گی۔“

تصدیق کرتے ہیں۔ اگر انھوں نے راجہ سے شکایت کی کہ تمھاری بہن کے علاوہ ایک مسلمان لڑکی بھی جہاز سے غائب ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ راجہ مجھے اس بات کا ذمہ دار

ٹھہرائے؟ میں راجہ کے سامنے بھی یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میری بہن جہاز پر نہیں تھی اور مسلمان لڑکی کے غائب ہو جانے کا واقعہ بھی صحیح نہیں۔

لیکن جب قیدی یہ شکایت کریں گے کہ وہ جہاز سے غائب ہوئی ہیں تو تمھارا بیان راجہ کو مطمئن نہ کر سکے گا۔

بے رام نے پریشان ہو کر کہا: "آخر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ نے زبیر اور علی کو اذیت پہنچا کر مجھے یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ میری بہن غائب نہیں ہوئی اور اب آپ یہ ثابت کرنے پر مصر ہیں کہ عرب لڑکی اور میری بہن جہاز سے غائب ہوئی ہیں۔"

پرتاپ رائے نے جواب دیا: "میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جس نے تمھیں اپنی بہن کا راز چھپانے پر مجبور کیا ہے؟"

"آپ یہ جانتے ہیں کہ زبیر میرا اہمان تھا۔ اس نے میری جان بچائی تھی اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس واقعہ کی آڑ لے کر اُسے اذیت پہنچائیں۔"

"تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم صرف زبیر کی خاطر اپنے صحیح دعوے سے دست بردار ہوئے۔ تم زبیر کی دوستی پر اپنی بہن کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو لیکن تمھارا دل

یہ گواہی دیتا ہے کہ تمھاری بہن کو میں نے اغوا کیا ہے اور صرف تمھاری بہن ہی نہیں بلکہ ایک عرب لڑکی اور لڑکے کے غائب ہو جانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی عاید ہوتی ہے۔"

بے رام نے جواب دیا: "نہیں نہیں! مجھے آپ کے متعلق جو غلط فہمی تھی، وہ

## دوست اور دشمن

برہمن آباد سے ایک کوس کے فاصلے پر بے رام کو اپنا قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے واسو کے ساتھ قافلے میں شریک ہونا خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے اپنا راستہ تبدیل کر دیا اور دوسرے دروازے سے شہر میں داخل ہوا۔ برہمن آباد میں نرائن داس نامی ایک نوجوان اس کا پڑانا دوست تھا۔ بے رام نے واسو کو اس کے گھر ٹھہرا کر شاہی مہمان خانے کا رخ کیا۔ تھوڑی دیر بعد پرتاپ رائے سپاہیوں اور قیدیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ اس نے بے رام کو دیکھتے ہی کہتے: "مجھ سے تم نے شکار کا بہانہ کیوں کیا؟ تم نے صاف یہ کیوں نہ بتایا کہ تم مجھ سے پہلے ہمارا ج سے ملنا چاہتے تھے، اب بتاؤ! تمھاری بہن کی کہانی سننے کے بعد ہمارا ج نے کیا کہا؟"

"میں ابھی تک ہمارا ج سے نہیں ملا اور نہ میری یہ نیت تھی۔"

پرتاپ رائے نے مطمئن ہو کر کہا: "بے رام! میرا خیال ہے کہ اپنی بہن کے غائب ہو جانے کے متعلق تم نے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ میں عربوں کے علاوہ سرانڈیپ کے قیدیوں سے بھی پوچھ چکا ہوں۔ وہ سب تمھارے پہلے بیان کی

دور ہو چکی ہے۔ اور اگر وہ اس کے لئے نہ ہو تو اسے کتنا  
 کبھی؟ ” ایک اور شخص نے کہا: ” اس کے لئے تو اسے کتنا  
 بے رام نے اچانک محسوس کیا کہ پرتاپ رائے اس کے لیے پھر ایک بھندا تیار کر رہا  
 ہے۔ اس نے چونک کر کہا: ” آخر ان باتوں سے آپکا مطلب ہے میں آپ سے وعدہ کر چکا  
 ہوں کہ میں راجہ کے سامنے اپنی بہن کا ذکر نہیں کروں گا۔ ”  
 پرتاپ رائے نے سرد مہری سے کہا: ” تم جو کچھ خود نہیں کہنا چاہتے وہ غزبوں  
 کی زبان سے کہلو اور گے۔ اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پہلے جس راجہ کو  
 تم ظاہر کرنا چاہتے تھے، اسے پس چھپانا چاہتا تھا۔ اب جس راجہ کو تم چھپانا چاہتے ہو  
 اسے میں ظاہر کرنے پر مجبور ہوں۔ میرے متعلق اگر تمھاری غلط فہمی دوڑ رہی ہے تو اس  
 کی کوئی وجہ ہے اور میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ ہانسنے کے لیے تیار نہیں کہ  
 تم ایک عرب کے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتے ہو۔ کوئی غسل مند آوی یہ مانینے  
 کے لیے تیار نہ ہوگا۔ ”  
 ” تو تمھارا یہ مطلب ہے کہ میں نے خود اپنی بہن کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ ”  
 ” تمھاری بہن کا مسئلہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن عرب لڑکی کا  
 سزاغ لگانے کی ذمہ داری مجھ پر عاید ہوتی ہے، بہت ممکن ہے کہ تمھاری طرح عربوں  
 نے بھی راجہ کو مجھ سے بدظن کرنے کے لیے ایک لڑکی کے غائب ہو جانے کا بہانہ تلاش  
 ہو لیکن اگر دربار میں اس کے غائب ہو جانے کا ہواں اٹھایا گیا تو ہم میں سے ایک کو یہ  
 ذمہ داری اپنے سر لینا پڑے گی۔ ”  
 بے رام نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا: ” جس طرح میں نے آپ سے انتقام لینے  
 کے لیے اپنی بہن کے غائب ہو جانے کا بھوٹا افسانہ تراشا تھا۔ اسی طرح انھوں نے  
 مجھے آپ کا شریک کار سمجھ کر مجھ سے انتقام لینے کے لیے یہ بہانہ تلاش کیا ہے۔ میں

ذیر کو سمجھا سکتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ میرے کہنے پر راجہ کے سامنے جھوٹی شکایت  
 نہیں کرے گا۔ ”  
 پرتاپ رائے نے بے رخی سے کہا: ” تم کسی قیدی سے بات مزیت نہیں کر سکتے  
 میں نے سنا ہے کہ حکم دیا ہے کہ راجہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے تمھیں اپنا صندوق  
 کھول کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ”  
 بے رام نے کچھ کھنکھاتا تھا لیکن فوج کے ایک افسر نے آکر پرتاپ رائے کو اطلاع  
 دی کہ تمہارا راجہ آپ کو یاد فرماتے ہیں۔ ”  
 بے رام نے پرتاپ رائے کے ساتھ جانا چاہا لیکن اس نے کہا: ” تمہارا راجہ نے  
 مجھے یاد فرمایا ہے تمھیں نہیں۔ تم اطمینان سے بیٹھے رہو! جب تمھیں بلایا جائے گا۔ ”  
 تمھارا راستہ نہیں روکوں گا۔ ”  
 پرتاپ رائے جہاز سے اٹھوا کر چلا گیا اور بے رام پریشانی کی حالت  
 میں ادھر ادھر ٹھٹھے لگا کر ذیر باقی قیدیوں کے ساتھ ہی ایک کمرے میں بیٹھا ہوا  
 تھا۔ اس نے ٹھٹھے ٹھٹھے اندر جھانک کر دیکھا لیکن پھرے دار نے اسے ایک  
 طرف دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ بے رام سے ایک معمولی پھرے دار کا یہ سلوک  
 دیکھ کر ذیر اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو یقین ہونے لگا کہ وہ ان کے ساتھ  
 ایک ہی کشتی میں سوار ہے۔ ”  
 (۲)  
 غروب آفتاب سے کچھ ذیر پہلے راجہ کے ایک سہا ہی نے بے رام کو اطلاع  
 دی کہ تمہارا راجہ آپ کو بلاتے ہیں۔ بے رام کا ٹھٹھا دار کے راجہ کے مخالف کا صندوق  
 اٹھوا کر راجہ کے محل میں پہنچا۔ پھرے دار اسے محل کے ایک کمرے میں لے گئے۔

لوٹے جا رہے تھے میں ایک کوٹھری میں بند تھا۔  
 ”تم نے پرتاپ رائے سے یہ کہا تھا کہ تم نے عربوں کو اس کی قید سے چھڑانے کے  
 لیے یہ بہانہ تراشا تھا؟“

”اُن داتا! میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن.....!“  
 راجہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ”ہم کچھ نہیں سنا چاہتے۔ اگر عربوں نے شکایت کی  
 کہ جہاز پر سے ان کی ایک لڑکی غائب ہوئی ہے تو تمہیں اس لڑکی کو ہمارے حوالے  
 کرنا پڑے گا۔“

”ہمارا ج! اگر عرب مجھ پر یہ شبہ ظاہر کریں کہ لڑکی کو میں نے اغوا کیا ہے تو میں  
 ہر سزا بھگتے کے لیے تیار ہوں۔“

”ہم تمہاری چال اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر عربوں نے تمہیں قصور وار نہ ٹھہرایا تو  
 اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اُن کی مرضی سے لڑکی کو کہیں پھپھار کھا ہے۔ تم جانتے ہو  
 کہ ہمارے پاس ایسے طریقے ہیں۔ جن سے انہیں سچ بولنے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔“  
 ”اُن داتا! اگر آپ مجھے قصور وار ٹھہراتے ہیں تو جو سزا جی میں آئے دے لیں،  
 لیکن عربوں کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہو چکی ہے۔“

”تو تم ہمارے دشمنوں کے ساتھ دوستی کا دم بھرتے ہو؟“  
 ”وہ آپ کے دشمن نہیں۔ وہ سندھ کو عرب کا ایک پُر امن ہمسایہ خیال کرتے  
 تھے۔ ورنہ وہ دیبل کے قریب سے بھی نہ گزرتے تھے۔ اگر وہ نیک نیت نہ ہوتے تو  
 جواہرات کا یہ صندوق جو میں ہمارا جہ کا ٹھیکہ دار کی طرف سے آپ کی خدمت میں  
 پیش کر رہا ہوں، آپ تک نہ پہنچتا۔“

راجہ نے کہا۔ ”کاٹھیاوار کے جواہرات سرانڈیپ کے جواہرات کے مقابلے  
 میں پتھر معلوم ہوتے ہیں۔“

راجہ دہر سنگ مرمر کے چبوترے کے اوپر سونے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ پرتاپ  
 رائے کے علاوہ دیبل کا حاکم اعلیٰ اور سیناپتی اودھے سنگھ اور اس کا لڑکھو  
 بیٹا بھی سنگھ جوارور سے راجہ کے ساتھ آئے تھے، اس کے سامنے کھڑے تھے۔  
 جے رام نے راجہ کو تین بار جھک کر پرنام کیا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دو  
 سپاہیوں نے آبنوس کا صندوق راجہ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ جے رام نے  
 راجہ کے حکم سے صندوق کھولا۔ راجہ نے جواہرات پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔  
 پھر پرتاپ رائے کی طرف دیکھا اور جے رام سے سوال کیا۔ ”ہم نے سنا ہے کہ تم  
 عربوں کی حمایت کرنا چاہتے ہو۔ تم نے ہمارے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ ہم عربوں  
 کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم نے ہمارے وفادار پرتاپ رائے پر تہمت لگانے  
 کے لیے ایک عرب لڑکی اور اپنی بہن کو کہیں چھپا دیا ہے؟“

جے رام نے جواب دیا۔ ”اُن داتا! مجھے یہ یقین نہ تھا کہ پرتاپ رائے نے  
 آپ کے حکم سے ان کے جہازوں کو ٹوٹا تھا، ان کا دیبل میں بھرنے کا ارادہ نہ  
 تھا۔ انہوں نے مجھے راستے میں بحری ڈاکوؤں سے چھڑایا تھا۔ دیبل میں میں انہیں  
 اپنے مہمان بنا کر لایا تھا اور اپنے مہمانوں کی رکشا ایک راجپوت کا دھرم ہے۔  
 عرب لڑکی اور اپنی بہن کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جب جہاز

سندھ کا دار الحکومت ضلع نواب شاہ میں بیرانی کے قریب ایک قدیم شہر کے  
 گھنڈرات موجود ہیں، جسے دلور کہا جاتا ہے۔ بعض محققین کے خیال میں دلور اور  
 کی بگڑی ہوئی صورت ہے لیکن بعض تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ اور کا شہر  
 موجودہ روہڑی کے آس پاس آباد تھا۔ اور دیاتے سندھ نے اُس کا نشان  
 تک نہیں چھوڑا۔

ہوئے۔ پرتاپ رائے نے جسے رام کو چلنے کا اشارہ کیا، جسے رام ننگی تلواروں کے پھرنے میں پرتاپ رائے کے آگے چل دیا۔

اودھے سنگھ، جسے رام کی تقریر کے دوران میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ ایک سر پھرانو جوان اس کے اپنے خیالات کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس نے کہا، "ان دنوں اگر مجھے اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔"

راجہ نے جواب دیا، "تھارے کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اُسے ایسی سزا دیں گے جو برہمن آباد کے لوگوں کو دیر تک نہ بھولے۔"

اودھے سنگھ نے کہا، "لیکن مہاراج! میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کہا ہے نیک نیتی سے کہا ہے۔ ہمیں چند ہاتھیوں اور جواہرات کے لیے غریبوں کے ساتھ دشمنی مول نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت پر بھروسہ ہے لیکن غرب نہایت سخت جان دشمن ہیں۔"

راجہ نے کہا، "اودھے سنگھ! ایک گیدڑ کی پیچیں سن کر تم بھی گیدڑ بن گے یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے اور جو کی روکھی سوکھی روٹی کھانے والے ہمارے مقابلے کی بھارت کریں گے؟"

"مہاراج! وہ اونٹنیوں کا دودھ پی کر شیروں سے لڑتے ہیں جو کی روٹی کھا کر پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں۔"

"تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ اونٹنوں پر چڑھ کر ہمارے ہاتھیوں کے مقابلے کے لیے آئیں گے؟"

"ان دنوں ان کے اونیٹ ایران کے ہاتھیوں کو شکست دے چکے ہیں۔"

راجہ نے غصے میں آ کر کہا، "اودھے سنگھ! مجھے تم سے یہ امید تھی کہ تم

"مہاراج! میں جوہری نہیں، ایک سپاہی ہوں، میں پتھروں کو نہیں پہچانتا لیکن آپ کے دوست اور دشمن کو پہچانتا ہوں۔ میں ان پتھروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں مہاراج کا ٹھیاوار کی دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ ان پتھروں کی قیمت اگر ایک کوڑی بھی نہ ہو تو بھی وہ ہاتھ جو آپ کے سامنے یہ ناچیز تحائف پیش کر رہا ہے بہت قیمتی ہے لیکن پرتاپ رائے نے عرب حبیبی پڑامن اور طاقت ور ہنسایہ سلطنت کے ہمارے لوٹ کر جو کچھ آپ کے لیے حاصل کیا ہے۔ وہ آپ کو بہت ہنگام پڑے گا۔ ان دنوں آپ کو مسلمانوں سے دشمنی مول لینے سے پہلے بہت سوچ بچار سے کام لینا چاہیے۔ ان کا ہاتھ ہر ہاتھ سے مضبوط ہے اور ان کا لوہا ہر لوہے کو کاٹتا ہے۔ وہ جیٹھ کی آندھیوں کی طرح اٹھتے ہیں اور سادوں کے بادلوں کی طرح چھا جاتے۔ ان کے مقابلے پر آنے والوں کو نہ سمندر پناہ دے سکتے ہیں نہ پہاڑ۔ ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے اور ہوا میں اڑتے ہیں۔ آپ نے برسات میں دریائے سندھ کی لہریں دیکھی ہیں، لیکن ان کی فتوحات کا سیلاب اس سے کہیں زیادہ تند اور تیز ہے۔"

راجہ داہری کی فوج برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، "ڈر لو گیدڑ! تمہاری رگوں میں راجپوت کا خون نہیں۔ میرے ملک میں تمہارے جیسے بزدل آدمی ناگزیر رہتے گا کوئی حق نہیں۔"

"ان دنوں! میں اس وقت مہاراج کا ٹھیاوار کا بیٹی ہوں۔ میں خود ایسے ملک میں نہیں رہنا چاہتا جس میں دوست کو دشمن اور دشمن دوست خیال کیا جائے۔"

"کاٹھیاوار کا راجہ اگر خود بھی یہاں موجود ہوتا تو بھی میں یہ الفاظ سننے کے بعد اس کا سر قلم کر دیتا۔ پرتاپ رائے! اسے لے جاؤ! ہم کل اس کی سزا کا فیصلہ کریں گے۔ صبح عربوں کے سرخند کو ہمارے سامنے پیش کرو۔"

پرتاپ رائے نے سپاہیوں کو آواز دی اور آٹھ آدمی ننگی تلواریں لیے آ موجود

عربوں کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن میں مکران کی جنگ میں یہ دیکھ چکا ہوں کہ عام عرب سپاہی ہمارے بڑے سے بڑے پہلوان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ مکران پر عربوں نے کل چھ سو سواروں کے ساتھ حملہ کیا تھا اور راجہ کے چار ہزار سپاہیوں کو تنکوں کی طرح بہانے لگتے تھے۔ جے رام کو آپ وزیر سے جانتے ہیں۔ ہم اے نوجوانوں میں اس سے بڑھ کر تلوار کا دھنی اور کوئی نہیں۔ اگر وہ عربوں سے اپنی قدر مرعوبیت ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ بزدل یا مہاراج کا نامک حرام ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ عربوں سے بگاڑ کے خطرے کا صحیح اندازہ کر چکا ہے۔“

راجہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ ”تم میرے سینا پتی ہو وزیر نہیں اور میں ان معاملات میں تمہاری سمجھ سے کام نہیں لینا چاہتا اگر بڑھاپے میں تمہاری ہمت جواب دے چکی ہے تو تمہیں اس جندہ بے سبکدوش کیا جاسکتا ہے اور تمہیں یہ بھی حق نہیں کہ تم جے رام جیسے سرکش، گستاخ اور بزدل کی سفارش کرو۔ وہ جو کچھ ہمارے سامنے کہہ چکا ہے وہ اسے بڑی سے بڑی سزا دینے کے لیے کافی ہے۔“

اودھے سنگھ راجہ کے تیور دیکھ کر سہم گیا۔ اس نے کہا۔ ”مہاراج! میں معافی چاہتا ہوں۔ آپ کو میرے متعلق غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے اتنی باتیں کرنے کی جرات اس لیے کی کہ ابھی تک آپ نے عرب کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اگر آپ اعلان جنگ کر چکے ہوں تو میرا فرض ہے اور صرف میرا ہی فرض نہیں بلکہ ہر سپاہی کا یہ فرض ہے کہ آپ کی فتح کے لیے اپنی جان قربان کر دے۔ جے رام کی گستاخی کا مجھے افسوس ہے لیکن میں آپ کو یقین دلانا ہوں کہ وقت آنے پر وہ بھی ایک وفادار راجپوت ثابت ہوگا۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہمیں آج ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم عربوں کو ایسی شکست دیں کہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ ہو سکیں۔“

عربوں کے متعلق سنی سناتی باتوں سے مرعوب ہو جاؤ گے، ہم عرب کی سپاری آبادی سے زیادہ سپاہی میدان میں لاسکتے ہیں۔ راجپوتانہ کے تمام راجہ ہمارے اشارے پر گمراہ نہیں کھڑانے کے لیے تیار ہوں گے۔“

اودھے سنگھ نے کہا۔ ”مہاراج! مجھے ان کا خوف نہیں لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سوئے ہوئے فتنے کو جگانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دو تیروں کی مدد کے بھروسے پر ایک طاقتور دشمن سے لڑائی مول لینا ٹھیک نہیں۔“

”اودھے سنگھ! تم بار بار کیا کہہ رہے ہو؟ سندھ کے سامنے عرب کے صحرائی ایک طاقتور دشمن کی حیثیت ہرگز نہیں رکھتے۔ آخر عربوں میں کیا خوبی ہے جو ہمارے سپاہیوں میں نہیں؟“

”مہاراج! ایسے دشمن کا کوئی علاج نہیں جو موت سے نہ ڈرتا ہو۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہ ہو تو آپ قیدیوں میں سے ایک عرب کو لاکر اس کا امتحان لے لیں۔ تلواریں ان کے کھلوانے ہیں۔“

راجہ نے اودھے سنگھ کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”کیوں بھیجیں سنگھ! تمہارا بھی یہی خیال ہے کہ ہمارے سپاہی عربوں کے مقابلے میں کمزور ہیں؟“

”بھیم سنگھ نے جواب دیا۔ ”مہاراج! پتہ ساجی عربوں کے ساتھ پر امن رہنے میں بھلائی سمجھتے ہیں اور نہ ہم نے بھی تلواروں کے سامنے پرورش پائی ہے، اگر عرب موت سے نہیں ڈرتے تو ہمیں مارنے سے بچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔“

راجہ نے کہا۔ ”شاباش! دیکھا اودھے سنگھ! تمہارا بیٹا تم سے بہادر ہے۔“

اودھے سنگھ نے جواب دیا۔ ”مہاراج کے منہ سے یہ سن کر مجھے خوش ہونا چاہیے لیکن سینا پتی کے فرائض کا احساس مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں مہاراج کے سامنے آنے والے خطرات کو گھٹا کر پیش نہ کر دوں۔ بھیم سنگھ ابھی بچ رہے۔ اس نے



منفق کیا۔ سندھ کے دار الحکومت اردسے اس کا وزیر بھی برہمن آباد پہنچ چکا تھا وزیر سیناپتی اور برہمن آباد کے امرا حسب مراتب تخت کے قریب کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ وزیر اور سیناپتی کے بعد تیسری کرسی پر پہلے برہمن آباد کا گورنر بیٹھتا تھا۔ اب دیبل کے گورنر کو دی گئی تھی اور برہمن آباد کا گورنر راجہ سے چند بالشت دور ہو جانے پر یہ محسوس کر رہا تھا کہ قدرت نے راجہ اور اس کے درمیان پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں۔ راجہ کے بائیں ہاتھ پانچویں کرسی پر ہمیں سنگھ برہمان تھا۔ باقی امرا بائیں طرف دوسری قطار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کرسیوں کے پیچھے پندرہ بیس عہدے دار دائیں بائیں دو قطاروں میں کھڑے تھے۔ تخت پر راجہ کے دائیں اور بائیں دو انیاں رونق افروز تھیں۔ ایک حسین و جمیل لڑکی راجہ کے پیچھے صراحی اور جام لیے کھڑی تھی۔ درباری شاہو نے مترنم آواز میں راجہ کی تعریف میں چند اشعار پڑھے۔ اس کے بعد کچھ دیر رقص و سرود کی محفل گرم رہی۔ راجہ نے شراب کے چند جام پیے اور قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی زبیر کو پاہ نہ نچر بار میں لے آئے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد بے رام داخل ہوا۔ زبیر کی طرح اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں زنجیریں نہ تھیں لیکن اس کے آگے پیچھے ننگی تلواروں کا پہرہ زبیر کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ اس کی حالت اس سے مختلف نہیں۔

راجہ نے پرتاپ رائے کی طرف دیکھا۔ ”یہ ہماری زبان جانتا ہے؟“ اس نے اٹھ کر جواب دیا۔ ”جی مہاراج! یہ اجنبی زبانیں سیکھنے میں بہت ہوشیار معلوم ہوتا ہے۔“

راجہ نے زبیر کی طرف دیکھا اور پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟“

”زبیر!“ اس نے جواب دیا۔

راجہ نے کہا۔ ”ہم نے سنا ہے کہ تم ہم سے بات کرنے کے لیے بہت

اس مقصد کے لیے ہمیں اوزار منظم کرنے کے علاوہ شمالی اور جنوبی ہندوستان کے تمام چھوٹے اور بڑے راجوں کا تعاون حاصل کرنا چاہیے۔ وہ سب آپ کا لوہا مانتے ہیں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو کر لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے۔ ہمیں کاٹھیاواڑ کے راجہ کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے آپ کو تحالف نہیں بھیجے، خراج بھیجا ہے۔ اگر آپ بے رام کا جرم معاف کر دیں تو اس کی وساطت سے سے جنگ میں بھی مہاراجہ کاٹھیاواڑ کا تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔“

راجہ نے قدرت سے مطمئن ہو کر کہا۔ ”اب تم ایک راجپوت کی طرح بول رہے ہو لیکن بے رام عربوں کے ساتھ مل چکا ہے۔ اگر اسے معاف بھی کر دیا جائے تو اس بات کا کیا ثبوت کہ وہ ہمارے ساتھ دھوکا نہیں کرنے گا۔ ہاں! میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عرب نوجوان کی دوستی کا دم بھرتا ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے تلوار کے مقابلے میں مغلوب کرنے تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔“

”مہاراج! وہ آپ کا اشارہ پا کر پہاڑ کے ساتھ ٹھکر گانے کے لیے بھی تیار ہوگا۔“

”بہت اچھا! ہم تمہاری سفارشات پر اسے موقع دیں گے۔ کل تم بے رام کی نیک نیتی کے علاوہ تلوار چلانے میں ایک عرب کی مہارت بھی دیکھ لیں گے۔“

راجہ نے اس کے بعد مجلس برخاست کی اور اٹھ کر محل کے دروازے

کرنے میں چلا گیا۔

اگلے دن راجہ داہرانے برہمن آباد کے محل کے ایک کشادہ کرنے میں

زیر نے جواب دیا۔ ”ہم نے دیبل میں شیروں کی شجاعت نہیں دیکھی، لومڑیوں کی مکاری دیکھی ہے۔“

زیر کے ان الفاظ کے بعد تمام درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اودھے سنگھ موقع کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے اٹھا اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا۔ ”ہمارا ج! چند دن قید میں رہ کر یہ لوجوان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سپاہی کی تلوار کند ہو۔ اس کی زبان بہت تیز ہوتی ہے۔“

زیر غصے کی حالت میں اودھے سنگھ کی دوستانہ مداخلت کا مطلب نہ سمجھ سکا اور بولا، ”مجھ پر بیچھے سے وار کیا گیا ہے، ورنہ میری تلوار کے متعلق تمہاری یہ رائے نہ ہوتی۔“

پرتاپ رائے نے اٹھ کر کہا۔ ”ہمارا ج! یہ جھوٹ کہتا ہے۔ ہم نے اسے لڑکر گرفتار کیا تھا۔“

زیر نے غصے اور حقارت سے کاہنتی ہوئی آواز میں کہا۔ ”بزول آدمی! تم انسانیت کا ذلیل ترین نمونہ ہو۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود تمہارے چہرے پر خوف و ہراس کے آثار ظاہر ہیں۔ لومڑی شیر کو پتھرے میں بھی دیکھ کر بدحواس ہے۔ میرا صرف ایک ہاتھ کھول دو اور مجھے میری تلوار دے دو۔ پھر ان سب کو میرے اور تمہارے دعویٰ کی صداقت معلوم ہو جائے گی۔“

پرتاپ رائے پھیٹی پھیٹی لگا ہوں سے حاضرین دربار کی طرف دیکھ رہا تھا۔ برہمن آباد کا گورنر زیر کی آمد کو تاخیر غیبی سمجھ رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دربار کا سکوت توڑا اور کہا۔ ”ہمارا ج! یہ کھشتری دھرم کی توہین ہے کہ ایک معمولی عرب بھگے دربار میں سردار پرتاپ رائے کو بزول کا طعنہ دے۔ آپ سردار پرتاپ رائے کو اجازت دیں کہ وہ اس کا دعویٰ جھوٹ ثابت کر دکھائیں۔“

بے چین تھے۔ کہو کیا کتنا چاہتے ہو؟“

”میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیبل کی بندرگاہ پر ہمارے جہاز کیوں ٹوٹے گئے اور ہمیں قیدی بنا کر ہمارے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟“

راجہ نے قدرے بے چین ہو کر جواب دیا۔ ”لوجوان! ہم پہلے سن چکے ہیں کہ عربوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں لیکن تمہیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی خاطر ذرا ہوش سے کام لینا چاہیے۔“

زیر نے کہا۔ ”ہمارے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، اگر آپ کو اس کا علم نہیں تو یہ ادب بات ہے، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ دیبل کے گورنر نے بغیر کسی وجہ کے ہم پر دست درازی کی۔ اگر آپ کو ہمارے متعلق کوئی غلط فہمی ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اگر سندھ کی طرف سے یہ قدم ہماری غیرت کا امتحان لینے کی نیت سے اٹھایا گیا ہے، تو ہم والی سندھ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے اچھوت نہیں جن کی فریاد ان کے گلے سے باہر نہیں آسکتی۔ آج تک ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی جرأت کسی نے نہیں کی اور سندھ کی سلطنت کو میں ایسی سلطنت نہیں سمجھتا، جو ایران کی زرہیں اور روما کے خود کاٹنے والی شمشیروں کی ضرب برداشت کر سکے۔ وہ قوم جو روئے زمین کے ہر مظلوم کی داد رسی اپنا فرض سمجھتی ہے۔ اپنی ہوشیاریوں کی بے عزتی پر خاموش نہیں بیٹھے گی۔“

راجہ نے وزیر کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ”سنو ایک قیدی ہمارے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے۔“

وزیر نے جواب دیا۔ ”ہمارا ج! یہ عرب بہت باتوں میں۔ ایران اور روم کی فتوحات نے انہیں مغرور بنا دیا ہے لیکن انہیں سندھ کے شیروں سے واسطہ نہیں پڑا۔“

دیکھیے!

بھیم سنگھ کی دیکھا دیکھی تمام درباریوں نے تلواریں کھینچ لیں۔ سب سے آخر میں پرتاپ رائے نے تلوار نکالی لیکن اس کی نگاہیں راجے سے کہہ رہی تھیں۔

”ان داتا! میرے حال پر رحم کرو۔“ درباریوں کو راجے کے اشارے کا منتظر دیکھ کر زیر نے اپنے ہونٹوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ ”بس اب جانے دیجیے! مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اپنے حریت کو پابہ زنجیر دیکھ کر آپ کے درباری بزدل کھانا پسند نہیں کرتے لیکن قدرت کو ٹریوں کے سامنے شیروں کو ہمیشہ باندھ کر پیش نہیں کرتی۔“

بھیم سنگھ نے کہا۔ ”ہمارا ج! اس کی بیڑیاں کھلواد دیجیے۔ میں اسے ابھی بتا دوں گا کہ شیر کون ہے اور لوٹری کون!“

(۴)

راجے کے اشارے پر سپاہیوں نے زیر کی بیڑیاں اتار دیں اور اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی لیکن زیر نے کہا۔ ”ہمارا ج! آپ کے دربار میں مقابلہ ٹھیک نہیں۔“

راجے نے جواب دیا۔ ”ٹھیک کیوں نہیں؟ اسی دربار میں ہمارے سپاہیوں کو بزدلی کا طعنہ دیا گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کا انتقام لیا جائے۔“

”ہمارا ج! انتقام اس نوجوان کو لٹنے کا موقع دینے بغیر بھی لیا جاسکتا ہے۔“

راجے نے جواب دیا۔ ”نہیں! ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عرب تلوار کس طرح چلاتے ہیں۔“

اودھے سنگھ کو پرتاپ رائے سے کم نفرت نہ تھی لیکن وہ جے رام کو راجے کے عتاب سے بچانا زیادہ ضروری خیال کرتا تھا اور اُسے بچانے کی اس کے ذہن میں یہی صورت تھی کہ جے رام زیر کا مقابلہ کر کے راجے کے شکوک رفع کر دے کہ وہ عربوں کا دوست ہے۔ اس نے اُٹھ کر کہا۔ ”ہمارا ج! برہمن آباد کے حاکم کا خیال درست نہیں۔ سردار پرتاپ رائے کا رتبہ ایسا نہیں کہ وہ ایک معمولی عرب سے مہلت بلہ کریں، یہ ان کی توہین ہے۔ اس نوجوان کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں نوجوان موجود ہیں۔ اگر ہمارا ج کونا گوار نہ ہو تو آپ جے رام کو ثابت کرنے کا موقع دیں کہ وہ بیٹھے عربوں کا دوست نہیں۔“

راجے نے جواب دیا۔ ”تم کئی بار جے رام کی سفارش کر چکے ہو لیکن اس کی باتیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ وہ عربوں سے بہت زیادہ مرعوب ہے۔ کیوں جے رام! تم اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے تیار ہو؟“

جے رام نے ہلچیانہ انداز میں کہا۔ ”ہمارا ج! میں آپ کے اشارے پر آگ میں کود سکتا ہوں لیکن زیر میرا حمان ہے اور میں اس پر تلوار نہیں اٹھا سکتا۔“

دربار میں ایک بار پھر سناٹا چھا گیا۔ اودھے سنگھ نے دل برداشتہ ہو کر جے رام کی طرف دیکھا۔ راجے نے چلا کر کہا۔ ”اس گڑھے کو میرے سامنے سے لے جاؤ۔ اس کا منہ کالا کر کے پتھرے میں بند کر دو اور شہر کی گلیوں میں پھراؤ۔ کل اسے مسرت ہاتھی کے سامنے ڈالا جائے گا۔ اودھے سنگھ! تم نے اس عرب کے سامنے ہمیں شرمسار کیا اور پرتاپ رائے! تم چپ کیوں بیٹھے ہو۔ تم دیبل میں اسے نیچا دکھا چکے ہو۔ اب تمہاری تلوار نیام سے باہر کیوں نہیں آتی؟ تم سب کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟“

نوجوان بھیم سنگھ نے اُٹھ کر تلوار بے نیام کی اور کہا۔ ”ہمارا ج! مجھے اجازت

بعد واپس چلی گئی۔ دبداری اب یہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر بھیج سگھ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھیج سگھ کو خود بھی اس کی برتری کا احساس ہو چکا تھا لیکن وہ اعتراف شکست پر موت کو ترجیح دینے کے لیے تیار تھا۔ پرتاپ رائے بھیج سگھ کے باپ سے پرانی رنجشوں کے باوجود انتہائی خلوص سے بھیج سگھ کی فتح کی دعائیں کر رہا تھا لیکن بھیج سگھ کے بازو ڈھیلے پڑ چکے تھے، راجہ اور اہل دربار کے چہرے پر مایوسی چھا رہی تھی۔

اودھے سگھ نے کہا۔ ”مہاراج! بھیج سگھ اپنی جان دے دے گا لیکن پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آپ اس کی جان بچا سکتے ہیں۔“

بڑی رانی نے اودھے سگھ کی سفارش کی لیکن چھوٹی رانی نے کہا۔ ”مہاراج! سپاہیوں کو بھیج سگھ کی مدد کا حکم دینا انصاف نہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے اودھے سگھ کے بیٹے نے جوش مارا ہے لیکن جب وہ پردیسی دو قدم پیچھے ہٹا تھا، اس پر کسی کو رحم نہ آیا۔ اگر آپ بچانا چاہتے ہیں تو دونوں کی جان بچائیے!“

راجہ تذبذب کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اچانک زہر پلے درپلے چند سخت دار کرنے کے بعد بھیج سگھ کو چاروں اطراف سے دھکیل کر اس کی خالی کرسی کے سامنے لے آیا۔ سپاہی جو ننگی تلواریں لیے قطار میں کھڑے تھے۔ ادھر ادھر سمٹ گئے۔ بھیج سگھ لڑکھڑاتا ہوا بیٹھ کے بل کرسی میں گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن زہر نے اس کے سینے پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا۔ ”تم اگر چند سال اور زندہ رہو تو ایک اچھے خاصے سپاہی بن سکتے ہو لیکن سب سے بدست تھاری جگہ یہ کرسی ہے۔“

بھیج سگھ کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور وہ غصے اور ندامت کی حالت میں اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔

بھیج سگھ کرسیوں کے درمیان کھلی جگہ میں اکھڑا ہوا اور اس نے تلوار کے اشارے سے زہر کو سامنے آنے کی دعوت دی۔

زہر نے راجہ کی طرف دیکھا اور کہا۔ ”اس نوجوان کے ساتھ مجھے کوئی دشمنی نہیں۔ میرا مجرم پرتاپ رائے ہے۔ آپ اسے قربانی کا بکرا کیوں بناتے ہیں؟“

بھیج سگھ نے کہا۔ ”بزدل! تم صرف باتیں کرنا جانتے ہو۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آؤ۔“

”اگر تم دوسرے کا بوجھ اٹھانے پر بصد ہو تو تمھاری مرضی۔“ یہ کہتے ہوئے زہر آگے بڑھ کر بھیج سگھ کے سامنے اکھڑا ہوا۔ راجہ کے حکم سے سپاہی تخت اور کرسیوں کے آگے نصف دائرے میں کھڑے ہو گئے۔ اودھے سگھ نے اٹھ کر کہا۔ ”بیٹا! اوچھا وار نہ کرنا۔ تم ایک خطرناک دشمن کے سامنے کھڑے ہو۔“

”پتا جی! آپ فکر نہ کریں۔“ یہ کہتے ہوئے بھیج سگھ نے یکے بعد دیگرے تین چار وار کر دیے۔ زہر اس حملے کی غیر متوقع شدت سے دو تین قدم پیچھے ہٹ گیا اور اہل دربار نے خوشی کا غرہ بلند کیا۔ زہر کچھ دیر بھیج سگھ کے دار روکنے پر اکتفا کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد تاشائی یہ محسوس کرنے لگا کہ حملہ کرنے والے ہاتھ سے حملہ روکنے والا ہاتھ کہیں زیادہ پھرتیلا ہے۔ اودھے سگھ پھر چلتا ہوا۔ ”بیٹا! جوش میں نہ آؤ! تلوار کا ٹھنڈا کھلاڑی ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے۔“

لیکن زہر کے چہرے کی پرسکون مسکراہٹ نے بھیج سگھ کو اور زیادہ سچ پا کر دیا اور وہ اندھا دھند وار کرنے لگا۔ اسے اپنے سے باہر آنا دیکھ کر زہر نے یکے بعد دیگرے چند وار کیے اور بھیج سگھ کو جارجانہ حملوں سے مدافعت پر مجبور کر دیا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ بھیج سگھ کی تلوار بروقت مدافعت کے لیے نہ اٹھ سکی لیکن زہر کی تلوار اسے گھائل کرنے کی بجائے اس کے جسم کے کسی حصے کو چھونے کے

گا۔ جسے تم تصور میں بھی برداشت نہ کر سکو گے۔ ابھی ہم نے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم خواہ مخواہ عرب کے ساتھ بگاڑ نہیں چاہتے۔ تمہاری قوم واقعی بہادر ہے لیکن اگر تم ذرا سمجھ سے کام لو تو ممکن ہے ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آزاد کر دیں۔ تمہارے سر پر اس وقت بیس سپاہی کھڑے ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ ایک کو مار سکو گے لیکن اس وقت ایک آدمی کے بدلے ہم تمام قیدیوں کو پھانسی دے دیں گے۔ اگر اپنے ساتھیوں کی خیر چاہتے ہو تو تلوار پھینک دو!

ذیر نے کہا: ”مجھے تم میں سے کسی پر اعتبار نہیں لیکن میں تمہیں اپنا نفع اور نقصان سوچنے کا آخری موقع دیتا ہوں۔ یاد رکھو! اگر تم نے میرے ساتھیوں کے ساتھ بدسلوکی کی تو وہ دن دور نہیں۔ جب تمہارے ہر سپاہی کے سر پر میرے جیسے سر پھروں کی تلواریں چمک رہی ہوں گی۔ تمہیں اگر جواہرات اور ہاتھیوں کا لالچ ہے تو میں ان کا مطالبہ نہیں کرتا۔ میں صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو رہا کر دو، خالد اور اس کی بہن کو ہمارے حوالے کر دو!“

راجہ نے جواب دیا: ”جب تک تم تلوار نہیں پھینکتے ہم تمہاری کسی درخواست پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔“

ذیر کو راجہ کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی۔ اگر اُسے اپنے ساتھیوں کا خیال نہ آتا تو وہ یقیناً اپنے آپ کو راجہ کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی بجائے بہادرانہ موت کو ترجیح دیتا لیکن بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے عبرتناک انجام کے تصور نے اس کا جوش ٹھنڈا کر دیا۔ اسے ناہید کا خیال آیا اور اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ مختلف خیالات کے گرداب میں راجہ کے

راجہ نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا لیکن ان کی تلواریں بلند ہونے سے پہلے ذیر بھیم سنگھ کی کرسی کے اوپر سے کود کر پرتاپ رائے کے پیچھے جا کھڑا ہوا اور پیشتر اس کے کہ پرتاپ رائے اپنی بدحواسی پر قابو پاتا۔ ذیر نے اپنی تلوار کی نوک اس کی پیٹھ پر رکھتے ہوئے راجہ سے کہا: ”اپنے سپاہیوں کو وہیں کھڑا رہنے کا حکم دیجیے! ورنہ میری تلوار اس موذی کے سینے کے پار ہو جائے گی۔“

راجہ کے اشارے پر سپاہی پیچھے ہٹ گئے تو ذیر نے پھر راجہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: ”بے وقوفوں کے بادشاہ! مجھے تم سے نیک سلوک کی توقع نہیں لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جن صلاح کاروں نے تمہیں عرب کے ساتھ لڑائی مول لینے کا مشورہ دیا ہے، وہ تمہارے دوست نہیں۔ جن لوگوں پر تمہیں بھروسہ ہے، وہ سب دیبل کے حاکم کا دل و دماغ رکھتے ہیں۔ اس کی طرف دیکھو، یہ وہ بہادر ہے جو کرسی پر بیٹھا ہوا بید مجنوں کی طرح کانپ رہا ہے۔ اب میں تمہارے سامنے اس شخص سے چند سوالات کرتا ہوں۔ کیوں پرتاپ رائے! تم نے مجھے لڑ کر گرفتار کیا تھا یا دوستی کا فریب دے کر جہاز سے بلایا تھا؟ جواب دو، خاموش کیوں ہو، اگر تم نے جھوٹ بولا تو یاد رکھو، ان سپاہیوں کی حفاظت سے تم نہیں بچ سکتے۔ بولو! یہ کہتے ہوئے ذیر نے تلوار کو آہستہ سے جنبش دی اور اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا: ”میں نے تمہیں جہاز پر سے بلایا تھا لیکن ہمارا ج کا یہی حکم تھا کہ تمہیں ہر قیمت پر گرفتار کیا جائے۔“

راجہ نے کہا: ”ٹھہرو! پرتاپ رائے نے ہمارے حکم کی تعمیل کی تھی۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے

بدل چکے ہیں“

وزیر نے جواب دیا: ”مہاراج! اگر آپ کا ارادہ نہیں بدلاتو پھر ان لوگوں کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں۔ میرے خیال میں اس کی کم سے کم سزا یہ ہو سکتی ہے کہ شہر کے کسی چوراہے میں پھانسی دی جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عرب عام انسانوں سے مختلف نہیں!“

راجہ نے کہا: ”میرا بھی یہی خیال ہے لیکن جہاز سے ایک عرب لڑکا اور لڑکی غائب ہو چکے ہیں اگر انھوں نے سندھ کی حدود پار کر کے مکران میں اور عربوں کو یہ خبر پہنچا دی تو ممکن ہے کہ ہمیں بہت جلد لڑائی کی تیاری کرنی پڑے۔“

وزیر نے جواب دیا: ”مہاراج! عرب کی موجودہ حالت مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ان کی خانہ جنگی کو ختم ہونے زیادہ دیر نہیں ہوئی اور اب ان کی تمام افواج شمال اور مغرب کے ممالک میں لڑ رہی ہیں۔ ہمارے پاس ایک لاکھ فوج موجود ہے اور ہم ضرورت کے وقت اسی قدر اور سپاہی جمع کر سکتے ہیں۔ پھر اچھوتانے کے تمام راجہ آپ کے باج گزار ہیں۔ وہ آپ کے جھنڈے تلے عربوں سے لڑنا اپنی بیعت سمجھیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ جو عرب سندھ میں آئے گا، واپس نہیں جائے گا۔“

”شاباش! مجھے تم سے یہ اُمید تھی۔ تم آج ہی تیاری شروع کر دو۔“

راجہ سے کانچھوسی ختم کرنے کے بعد وزیر اپنی گرسی پر آ بیٹھا۔

حوصد افرا کلمات اس کے لیے تنکوں کا سہارا ثابت ہوئے اور اس نے اپنی تلوار تخت کے سامنے پھینک دی۔ راجہ نے اطمینان کا سانس لیا۔ پرتاپ رائے کی حالت اس شخص سے مختلف نہ تھی جو جھینانک سپنا دیکھنے کے بعد نیند سے بیدار ہوا ہو۔ بڑی رانی نے راجہ کے دائیں کان میں کچھ کہا: ”مہاراج! ایسے لوگوں سے دشمنی مول لینا ٹھیک نہیں۔“

راجہ نے اشارے سے وزیر کو اپنے پاس بلایا اور آہستہ سے پوچھا: ”تمہارا کیا خیال ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”مہاراج! مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہیں۔“

راجہ نے کہا: ”اگر میں اسے چھوڑ دوں تو یہ سردار اور میری رعایا مجھے بزدل تو خیال نہ کریں گے؟“

”مہاراج! چاند پر حقوکنے سے اپنے منہ پر چھینٹے پڑتے ہیں۔ آپ اپنی رعایا کی نظر میں ایک دیوتا ہیں لیکن اب ان قیدیوں کو چھوڑنا مصلحت کے خلاف ہے۔ عربوں کو یہ خبر آت نہیں ہو سکتی کہ وہ سندھ پر حملہ کریں۔ لیکن ان لوگوں کو اگر ان کے ملک میں واپس بھیج دیا گیا تو یہ تمام عرب میں ہمارے خلاف آگ کا طوفان کھڑا کر دیں گے۔ اگر آپ عربوں کے ساتھ جنگ کر کے مکران کا علاقہ حاصل کرنے کا ارادہ بدل چکے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ان سب کو آزاد کرنے کی بجائے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے تاکہ عربوں کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہ ہو کہ ہم نے دیبل سے ان کے جہاز لوٹے ہیں۔ اس سے پہلے ہم ابوالحسن کے معاملے میں مکران کے گورنر کو ٹال چکے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی آن کا پتہ پوچھنے آیا تو اس کی تسلی کر دی جائے گی۔“

راجہ نے کہا: ”تمہیں کس نے بتایا کہ ہم مکران کو مستح کرنے کا ارادہ

راجہ نے سپاہیوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ "اسے لے جاؤ! آج شام تک ہم اس کا فیصلہ کر دیں گے۔"

## آخری اُمید

رات کے وقت سونے سے پہلے داسو نے کئی بار نراتن داس سے جے رام کے واپس نہ آنے کی وجہ پوچھی لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ شہر میں اُس کے کئی دوست ہیں۔ کسی نے اسے اپنے پاس ٹھہرائیا ہوگا۔ داسو کو جے رام کی ہدایت تھی کہ وہ اس کے واپس آنے تک نراتن داس کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اگلے دن بھی اس نے طوعاً و کرہاً جے رام کی اس ہدایات پر عمل کیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے نراتن داس نے آکر یہ خبر دی کہ جے رام کو ایک عرب کے ساتھ پنجرے میں بند کر کے شہر میں پھرا جا رہا ہے اور صبح سورج نکلنے سے پہلے ان دونوں کو شہر کے چوراہے میں پھانسی دے دی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ اس نے بھڑے دربار میں راجہ کے سامنے گستاخی کی ہے۔

داسو نے یہ سنتے ہی شہر کا رخ کیا۔ لوگ شہر کے ایک پُر رونق چوراہے میں ایک بانس کے پنجرے کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ داسو اپنے مضبوط بازوؤں سے لوگوں کو ادھر ادھر ہٹاتا ہوا پنجرے کے قریب پہنچا اور پنجرے کے اندر زبیر اور جے رام کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اٹھے پاؤں لوٹ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوٹے پر سوار

بچ جائیں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید ابھی بھوپنجال کے جھٹکے سے یہ شہر مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا۔ کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید جھکوان کا کوئی اوتار آسمان سے اتر کر راجہ سے کہے کہ ان بے گناہوں کو چھوڑ دو، ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ کبھی مجھے یہ امید سہما دیتی ہے کہ شاید دریائے سندھ اپنا راستہ چھوڑ کر دیبل کا رخ کر لے اور لوگ بدحواس ہو کر شہر سے بھاگ نکلیں اور جاتے جاتے ہمیں آزاد کر جائیں تمہیں اس قسم کا کوئی خیال نہیں آتا؟“

”نہیں! مجھے ایسے خیالات پریشان نہیں کرتے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر خدا کو میرا زندہ رکھنا منظور ہے تو وہ ہزار طریقوں سے میری جان بچا سکتا ہے اور اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میری کوئی تدبیر مجھے موت کے پنجے سے نہیں چھڑا سکتی۔“

جے رام نے کہا۔ ”زیراکاش میں تمہاری طرح سوچ سکتا لیکن میں ہوں ہوں اور ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تم بھی جوان ہو لیکن تمہارے سوچنے کا ڈھنگ مجھ سے مختلف ہے۔“

زیراکاش نے کہا۔ ”تم بھی اگر میری طرح سوچنے کی کوشش کرو تو دل میں تسکین محسوس کرو گے۔“

جے رام نے جواب دیا۔ ”یہ میرے بس کی بات نہیں۔“

زیراکاش نے کہا۔ ”جے رام! میری ایک بات مانو گے؟“

”وہ کیا؟“

”صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ میری اور تمہاری زندگی کے شاید

تھوڑے سانس باقی ہیں۔ میرے دل پر صرف ایک بوجھ ہے اور اگر تم چاہو تو

میں موت سے پہلے اس بوجھ کو اپنے دل سے اتار سکتا ہوں!“

ہو کر جنگل کا رخ کر رہا تھا۔

شہر میں آدھی رات تک چند پریداروں کے سوا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جے رام زیراکاش کو جنگل میں خالد ناہید اور بایا سے ملاقات کا واقعہ سنا چکا تھا۔ چند پہرے دار سوچکے تھے اور باقی پجڑے کے قریب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ زیراکاش نے موقع پا کر کہا۔ ”وہ درمال کہاں ہے؟“

جے رام نے جواب دیا۔ ”وہ میری کلانی کے ساتھ بندھا ہوا ہے لیکن ہم دونوں کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندھے بیٹھے ہیں۔ کاش! داسو کو ہماری خبر ہو جاتی۔ زیراکاش! میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں!“

”پوچھو!“

”ہمیں سورج نکلنے سے پہلے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تمہیں اس وقت

سب سے زیادہ کس بات کا خیال آ رہا ہے؟“

”میرے دل میں صرف ایک خیال ہے اور وہ یہ کہ میں اب تک خدا اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خوش کرنے کے لیے دنیا میں کوئی مفید کام نہیں کر سکا۔“

”تمہیں مرنے کا خوف تو ضرور ہوگا؟“

”ایک مسلمان کے ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موت سے نہ ڈرے اور

ڈرنے سے فائدہ ہی کیا۔ انسان خواہ کچھ کرے۔ جو رات قبر میں آئی ہو، قبر ہی میں آئے گی۔ اگر میری زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں تو میں افسوس باکرا نہیں

زیادہ نہیں کر سکتا لیکن مجھے ایک افسوس ہے کہ ایسی موت ایک سپاہی کی

شان کے شایاں نہیں۔“

جے رام نے کہا۔ ”مجھے ابھی تک یہ خیال آ رہا ہے کہ شاید ہم اس سزا سے



میں داخل ہو چکا تھا۔

زیر نے پوچھا: ”اب بتاؤ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے یا نہیں؟“  
 بے رام نے کہا: ”میرے دل میں صرف ایک اضطراب باقی ہے اور وہ  
 یہ کہ میں نے موت کی دہلیز پر کھڑے ہو کر اسلام قبول کیا ہے۔ کاش میں چند دن  
 اور زندہ رہ کر تمہاری طرح نمازیں پڑھتا اور روزے رکھتا۔“  
 زیر نے جواب دیا: ”ایک مسلمان کو خدا سے بالواسطہ نہیں ہونا چاہیے وہ  
 سب کچھ کر سکتا ہے۔“

(۲)

پہرے دار نے کسی کو پتھر کے قریب آتے دیکھ کر آواز دی۔  
 ”کون ہے؟“

ایک آدمی جواب دینے بغیر پتھر کے قریب پہنچ کرڑکا۔ چند اسپاہی  
 اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلے سپاہی نے پھر کہا: ”جواب نہیں دیتے۔ تم کون ہو؟“  
 لیکن اتنی دیر میں چند سپاہی اُسے پہچان چکے تھے اور ایک نے پرانے  
 ساتھی کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا: ”گنواروں کی طرح آوازیں دے رہے ہو  
 انہیں پہچانتے نہیں، یہ سردار بھیم سنگھ ہیں۔ مہاراج آپ اس وقت کیسے؟“  
 ”میں قیدیوں کو دیکھنے آیا تھا!“

دوسرے سپاہی نے کہا: ”مہاراج! آپ بے فکر رہیں۔ یہ چند آدمی  
 ابھی سوئے ہیں!“

بھیم سنگھ نے اس سے پوچھا: ”تمہارا نام کیا ہے؟“

اس نے جواب دیا: ”مہاراج! میرا نام سروپ سنگھ ہے۔“

بے رام نے کہا: ”میں اس پتھرے میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں اس  
 کے لیے تیار ہوں۔“

”بے رام! ہم نے زندگی کی چند منازل ایک دوسرے کے ساتھ طے کی  
 ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ مرنے کے بعد ہمارے راستے مختلف ہوں۔ میں چاہتا  
 ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اگر تم اس وقت بھی کلمہ توحید پڑھ لو تو میری گزشتہ  
 کوتاہیوں کی تلافی ہو جائے گی۔ اب اتنا وقت نہیں کہ میں تمہیں اسلام کی تمام  
 خوبیوں سے آگاہ کر سکوں۔ کاش! میں جہاز پر اس ذمہ داری کو محسوس کرتا لیکن  
 اگر تم میری باتوں پر توجہ دو تو مجھے یقین ہے کہ تم جیسے نیک دل اور صداقت  
 دوست آدمی کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت نہیں۔“

بے رام نے کہا: ”اگر تمہاری باتیں مجھے موت کے خوف سے نجات دلا  
 سکتی ہیں۔ تو میں سننے کے لیے تیار ہوں۔“

زیر نے کہا: ”اسلام انسان کے دل میں صرف ایک خدا کا خوف پیدا  
 کرتا ہے اور اُسے ہر خوف سے نجات دلاتا ہے۔ سنو! یہ کہہ کر زیر نے نہایت  
 مختصر طور پر اسلام کی تعلیم پر روشنی ڈالی۔ رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم)  
 کی زندگی کے حالات بیان کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی  
 سیرت پر روشنی ڈالنے کے لیے اسلام کی ابتدائی تاریخ کے واقعات بیان کیے۔  
 اختتام پر زیر اجنادین، یرموک اور قادسیہ کی جنگوں کے واقعات بیان کر رہا  
 تھا اور بے رام یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ ساری عمر تاریک غار میں بھٹکنے کے بعد  
 ایک ہی جست میں روئے زمیں کے بلند ترین پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی  
 آنکھوں میں امید کی روشنی جھلک رہی تھی۔

رات کے تیسرے پہرے بے رام برسوں کے اعتقادات کو چھوڑ کر آراہ اسلام

میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ تم نے اس لڑکی اور لڑکے کو کہاں چھپایا ہے؟  
”مجھے ان کا کوئی علم نہیں۔ جاؤ مجھے تنگ نہ کرو۔“

ذہیر کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے۔ بھیم سنگھ نے اس کے ہاتھ میں خنجر دیتے ہوئے آہستہ سے کہا ”مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہارے لیے یہ بخیر توڑ کر بھاگ نکلنا ممکن نہیں لیکن پھر بھی قسمت آزمائی کر دیکھو۔ اگر تم آزاد نہ بھی ہو سکتے تو کم از کم ہمارے موت کی موت مر سکو گے۔“

سپاہیوں کو منٹا لٹے میں ڈالنے کے لیے بھیم سنگھ نے اپنا لہجہ تبدیل کرتے ہوئے کہا ”مجھے یقین ہے کہ عرب لڑکی کو تم نے کہیں چھپا رکھا ہے۔ اچھا تمہاری مرضی نہ بتاؤ لیکن یاد رکھو، سورج نکلنے سے پہلے برہمن آباد کے باشندے تمہیں پھانسی کے تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے۔“

بھیم سنگھ نے پتھر سے چند قدم دور جا کر سپاہیوں سے کہا ”تم ایک طرف کیوں کھڑے ہو۔ مجھے ان سے کوئی مخفی بات نہیں کرنی تھی۔ ذرا اس بے رام کو دیکھو، اس کا غرور ابھی تک نہیں ٹوٹا۔“

سپاہی نے جواب دیا ”ہمارا ج! اس کی قسمت بُری تھی۔ دل نہ ہم نے سنا ہے کہ راجہ اس کی بہت قدر کرتا تھا۔ ہمارا ج! شہر کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ عرب جادوگر ہے۔ اس نے جادو کی طاقت سے بے رام کو راجہ کا نافرمان بنا دیا تھا۔“

بھیم سنگھ نے کہا ”شاید یہی بات ہے۔ مجھے بھی اس کے پتھر کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا۔“

”نہیں ہمارا ج! آپ پر اس کے جادو کا کیا اثر ہوگا۔ پھر بھی آپ گھر جا کر پرارتھنا کریں۔“

”تم بہت ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں برہمن آباد کے حکم سے سفارش کروں گا کہ تمہیں ترقی دی جائے!“

”بھگوان سرکار کا بھلا کرے۔ میرے چار بچے ہیں۔ آپ کے ہونٹ ہلیں گے اور میرا کام بن جائے گا!“

”تم فکر نہ کرو۔ ہاں قیدی سو رہے ہیں؟“  
”ہمارا ج! ابھی باتیں کر رہے تھے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پتھرے میں جھانک کر دیکھا اور بولا۔ ”ہمارا ج! یہ جاگ رہے ہیں!“

”میں بے رام سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں!“

”ہمارا ج! آپ کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر سپاہی نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ پتھرے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو گئے۔  
بھیم سنگھ نے پتھرے میں جھانکتے ہوئے بلند آواز میں کہا ”بے رام تم بہت بے وقوف ہو۔ اور پھر اپنا ہاتھ پتھرے میں ڈال کر ذہیر کا بازو ٹوٹتے

ہوئے آہستہ سے کہا۔ ”تم اپنے ہاتھ میری طرف کر دو۔“ ذہیر نے اپنی پیٹھ پھر کر اپنے بندھے ہوئے ہاتھ اس کی طرف کر دیے۔ بھیم سنگھ نے دوبارہ بلند آواز میں کہا ”نمک حرام! تمہیں راجہ کے سامنے اس کیچھ عرب کی دوستی کا دم بھرتے ہوئے شرم نہ آئی۔ اور پھر آہستہ سے کہا ”بے رام! میں تمہارے ساتھی کے ہاتھوں کی رسیاں کاٹ رہا ہوں۔ کچھ بولو اور نہ سپاہیوں کو شک پڑ جائے گا۔“

بے رام نے چلا کر کہا ”بھیم سنگھ شرم نہ کرو۔ یہ ایک راجپوت کی شان کے شایاں نہیں کہ وہ کسی کو بے بس دیکھ کر گالیاں دے!“

”میں تمہارے جیسے بزدل آدمی کو گالیاں دینا اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں۔“

”تم بہت سمجھ دار ہو۔ میں جاتا ہوں، میرا سر چکرا رہا ہے۔ شاید یہ جادو کا اثر ہے!“

”مہاراج! اگر حکم ہو تو ہم میں سے کوئی ایک آپ کو گھر چھوڑ آئے؟“

”نہیں، نہیں!! اس کی ضرورت نہیں۔“

بھیم سنگھ چل دیا تو سپاہی نے پیچھے سے آواز دے کر کہا: ”مہاراج! میرا خیال رکھنا!“

”تم فکر نہ کرو!“

”ایشور آپ کا بھلا کرے۔“

بھیم سنگھ کے چلے جانے کے بعد ایک سپاہی نے اپنے ساتھیوں سے کہا: ”دیکھا میں نہ کتنا تھا کہ یہ جادو گر ہے اور تم نہیں مانتے تھے۔ سرورپ سنگھ تمھاری خیر نہیں۔ تم کئی بار پنجرے کو ہاتھ لگا چکے ہو۔ اب تک تمھارا سر نہیں چکرایا؟“

”میرا سر —؟ ہاں کچھ بو بھل سا ضرور ہے۔“

”فکر نہ کرو، ابھی چکرانے لگ جائے گا۔“

”سرورپ سنگھ نے فکر مند سا ہو کر کہا: ”لیکن میں نے سنا ہے کہ جادو گر کے مرجانے پر جادو کا اثر نہیں رہتا۔“

”ایسے جادو گر مر کر پھر زندہ ہو جاتے ہیں!“

ایک اور سپاہی بولا: ”یاد میں نے بھی پنجرے کو ہاتھ لگایا تھا۔ میرا سر بھی چکرا رہا ہے۔“

سرورپ سنگھ بولا: ”بھگوان ایسے جادو گر کو غارت کرے۔ اب میرا سر سچ چکرا رہا ہے!“

ان باتوں کا یہ اثر ہوا کہ سپاہی آٹھ دس قدم ہٹ کر پھرہ دینے لگے۔ زبیر پنجرے کے اندر اپنے پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد بے رام کے ہاتھ پاؤں بھی آزاد کر چکا تھا اور دونوں پنجرے کی سلاخوں کے ساتھ زور آزمائی کر رہے تھے۔

ایک سپاہی نے چلا کر کہا: ”ارے وہ پنجرے میں کیا کر رہے ہیں۔“

زبیر اور بے رام دبا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے غمراٹے لینے لگے۔ دو سپاہیوں نے پنجرے کے گرد چکر لگایا اور مطمئن ہو کر اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔

بے رام نے آہستہ سے کہا: ”زبیر!“

اس نے جواب دیا: ”کیا ہے؟“

”یہ سلاخیں بہت مضبوط ہیں۔ قدرت نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، کیا تمہیں اب بھی چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی امید ہے؟“

”میرا دل گواہی دیتا ہے کہ خدا ہمارا مدد کرے گا!“

بے رام نے کہا: ”برہمن آباد میں سینکڑوں سپاہیوں پر بھیم سنگھ کا اثر ہے شاید وہ آخری وقت پر ہمارا مدد کرے۔“

”میں صرف خدا سے مدد مانگتا ہوں اور تمہیں بھی اسی کا سہارا لینا چاہیے اگر اُسے ہمارا زندہ رکھنا منظور ہے تو ہم بھیم سنگھ کی مدد کے بغیر بھی رہا ہو جائیں گے۔“

”میں تمھارے ایمان کی پختگی کی داد دیتا ہوں لیکن بُرا نہ انا یہ سلاخیں خود بخود ٹوٹنے والی نہیں۔“

زبیر نے کہا: ”بے رام! جہاں عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں وہاں

میں تو اس کا روز کا گاہک ہوں۔ میں مُفت تھوڑے رہا ہوں۔ کل پیسے ادا کر دوں گا۔“

یہ کہتے ہوئے سروپ سنگھ نے ایک مچھلی اٹھالی اور شرارت آمیز تبسم کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اور انھوں نے ہنستے ہوئے ان کی آن میں تمام ٹوکری خالی کر دی۔

سروپ نے کہا: ”لو بھئی! تمہارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اب کل اسی جگہ اور اسی وقت پیسے لے لینا۔“

”بہت اچھا سرکار!“

پنجرے کے اندر زبیر سے رام سے کہہ رہا تھا: ”یہ گنگو ہے لیکن یہ کیلا کیوں آیا؟“

گنگو نے سپاہیوں سے کہا: ”مجھے الغوزہ بجانا آتا ہے۔ آپ کو سناؤ؟“

سپاہیوں نے یک زبان ہو کر کہا: ”ہاں ہاں سناؤ!“

گنگو نے الغوزے سے چند دلکش تانیں نکالیں اور اس کے ساتھی عام شہریوں کے لباس میں مختلف گلیوں سے نکل کر سپاہیوں کے گرد جمع ہونے لگے۔ ایک سپاہی نے اپنے ساتھی سے کہا: ”ارے اس نے تو خواہ مخواہ پچھرے کا ذلیل پیشہ اختیار کر رکھا ہے۔ یہ تو الغوزہ بجا کر کافی پیسے کما سکتا ہے۔“

گنگو کے ساتھی ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے: ”مجھے اس کی تانوں

نے گہری تیند سے بیدار کیا ہے اور پھر میرا سونے کو جی نہ چاہا۔“

”مجھے دستنی کی ماں کہتی تھی کہ جاؤ دیکھو کوئی فقیر ہوگا۔“ اے میرے

محلے کے تمام لوگ حیران ہیں کہ یہ کون ہے؟“

ایمان کی مشعل کام دیتی ہے۔ تم ایک ایسے خدا پر ایمان لاپچکے ہو، جس نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا۔“

جے رام کچھ کہنے والا تھا کہ باہر سے ایک سپاہی چلایا: ”کون ہے؟“

ایک شخص نے چند قدم کے فاصلے سے جواب دیا: ”جی میں ماہی گیر ہوں!“

”یہاں کیا کر رہے ہو؟“

”جی میں مچھلیاں لایا ہوں۔“

”مچھلیاں! اس وقت؟“

”جی اب دن نکلنے والا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ انھیں بیچ کر جلدی واپس چلا جاؤں۔ آپ کو کوئی مچھلی چاہیے؟“

ایک سپاہی نے کہا: ”سروپ سنگھ! تم نے لو، تمہارے چار بچے ہیں۔“

پچھرے نے کہا: ”ہاں سرکار نے لو! بالکل تازہ ہیں۔“

سروپ سنگھ نے جواب دیا: ”ہم اس وقت پیسے باندھ کر تھوڑا بیٹھے ہیں۔ مُفت دینی ہے تو دے جاؤ۔“

”جی! شہر کے عام لوگ بھی ہم سے مُفت چھین لیتے ہیں۔ آپ تو سپاہی ہیں، آپ سے پیسے کون مانگ سکتا ہے!“

یہ کہتے ہوئے ماہی گیر نے مچھلیوں کی ٹوکری سپاہیوں کے آگے رکھ دی۔

ایک سپاہی نے کہا: ”ارے تمہارے پاس تو کافی مچھلیاں ہیں۔ ہمیں بھی دو گے یا نہیں؟“

سروپ سنگھ نے کہا: ”نہیں نہیں!! اس بے چارے پر ظلم نہ کرو۔“

ایک بھڑپے کو انسان نہیں بنا سکتیں“

مایا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ”آپ فکر نہ کریں، وہ آجائیں گے!“  
 ”زیر پھانسی پر لٹک رہا ہو اور مجھے فکر نہ ہو۔ کاشش! میں لنگو کے  
 ساتھ ہوتا۔“ یہ کہتے ہوئے خالد نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور ہونٹ کاٹا ہوا  
 باہر نکل گیا۔ مایا دیوی ڈبڈبانی ہوئی آنکھوں سے ناہید کی طرف دیکھنے لگی۔  
 اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ”مایا! اس نے  
 تمہیں تو کچھ نہیں کہا۔ تم ذرا اسی بات پر رو پڑتی ہو۔“  
 مایا نے جواب دیا۔ ”آج ان کے تیور دیکھ کر مجھے ڈر لگتا ہے۔ اگر وہ  
 ناکام آئے تو کیا ہوگا؟“

ناہید نے کہا۔ ”وہ ایک خطرناک مہم پر گئے ہیں اور ان کی کامیابی اور  
 ناکامی میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔“  
 اگر لنگو اور اس کے ساتھی بھی لڑائی میں مارے گئے تو آپ اپنے وطن  
 چلے جائیں گے اور میں.....“

ناہید نے جواب دیا۔ ”میری ننھی بس! تم اپنے لیے عرب کی زمین تنگ  
 نہ پاؤں گی!“

”لیکن خالد آج بات بات پر مجھ سے بگڑتے ہیں ممکن ہے کہ وہ مجھے  
 یہیں چھوڑ جائیں۔“

”مایا! میرے سامنے خالد نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ماں بھانڈے  
 بھائی اور زیر کے متعلق یہ المناک خبر سننے کے بعد وہ کچھ بے قرار سا ہے۔  
 خدا کرے، وہ زندہ بچ کر آجائیں۔ تو پھر خالد کے چہرے پر تمام عمر  
 مسکراہٹیں دیکھا کر دو گی۔“

لنگو الغوزہ بجالتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی اچانک تلواریں  
 سونت کر سپاہیوں پر پل پڑے اور ان کی آرزو میں اُن کا صفایا کر دیا۔ داسو  
 نے کھارے کی چند ضربوں سے پتھرے کا دروازہ توڑ دیا اور بے رام اور زیر  
 پک کر باہر نکل آئے۔

چوک کے آس پاس کی آبادی نے الغوزے کی دلکش تانوں کے بعد  
 حملہ آوروں اور سپاہیوں کی غیر متوقع چرخ پکار سنی لیکن اپنے گھروں سے  
 باہر نکل کر دیکھنے کی جسرات نہ کی۔ زیر اور بے رام  
 لنگو اور اس کے ساتھیوں کے ہمراہ بھاگتے ہوئے شہر سے باہر نکلے۔ لنگو  
 کے چند ساتھی ایک باغ میں گھوڑے لیے کھڑے تھے۔

جس وقت شہر میں اس ہنگامے کا ردعمل شروع ہو رہا تھا یہ لوگ  
 گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگ کا رخ کر رہے تھے۔

(۴۶)

ناہید اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور مایا اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ  
 آہستہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ خالد بے قراری کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر  
 ٹھلٹھا ہوا بستر کے قریب کھڑا ہو کر لولا۔ ”ناہید بہت دیر ہو گئی۔ انہیں اس  
 وقت تک پہنچ جانا چاہیے تھا۔ کاش! میں یہاں ٹھہرنے پر مجبور نہ ہوتا۔“  
 مایا نے خالد کی طرف دیکھا اور پھر آنکھیں جھکا کر تسلی آمیز لہجے میں  
 بولی۔ ”مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ راجہ دہرا اس قدر ظالم ہو سکتا ہے،  
 ممکن ہے کہ داسو۔۔۔!“

خالد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ”تمہاری نیک خواہشات

قلعے کا ایک پہرہ بیدار بھاگتا ہوا آیا۔ ناہید نے اپنا چہرہ دوپٹے میں چھپا لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔

پہرہ بیدار نے کہا۔ ”خالد گھوڑے پر زین ڈال رہے ہیں۔ وہ میرا کہا نہیں مانتے۔ انہیں بہن آبادکار استنہ بھی معلوم نہیں۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو گنگو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ انہیں منع کریں!“

ایک لمحہ کے لیے مایا کا دل بیٹھ گیا۔ پھر زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ اٹھی اور بے تحاشا بھاگتی ہوئی قلعے سے باہر نکل آئی۔ اس کا دل یہ کہہ رہا تھا۔ ”خالد مت جاؤ! مت جاؤ! میں بھائی کا غم برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ خالد مجھ پر رحم کرو۔ خالد! خالد!“

قلعے سے باہر خالد گھوڑے کی لگام تھام کر اپنا ایک پاؤں رکاب میں رکھ چکا تھا۔ مایا نے بھاگتے ہوئے آواز دی۔ ”ٹھہرو! خدا کے لیے اٹھو رو!! اکیلے مت جاؤ! میں تمہارے ساتھ ہوں“ یہ کہتے ہوئے اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔

خالد نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور پریشان سا ہو کر مایا کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنی دیر میں ناہید بھی باہر آ چکی تھی۔ مایا ناہید کی طرف متوجہ ہو کر بولی۔ ”ہن انہیں روکو! یہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ بھگو ان کے لیے! خدا کے لیے انہیں روکو!“

ناہید نے ان کے قریب پہنچ کر کہا۔ ”خالد! اگر تمہارے جانے میں کوئی مصلحت ہوتی تو میں اس بے کسی کے باوجود تمہارا راستہ نہ روکتی۔ تم اکیلے شہر میں راجہ کے تمام لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہیں گنگو کا انتظار کرنا چاہیے وہ ضرور آئے گا۔ اگر وہ نہ آیا تو اس کا کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور آئے گا۔ بیشک

خالد کی مسکراہٹوں کا ذکر مایا کو تھوڑی دیر کے لیے تصورات کی حسین دنیا میں لے گیا۔ اسے یہ اجڑی ہوئی دنیا دیکھتے ہوئے پھولوں کی ایک کیاری دکھائی دینے لگی۔ وہ پھولوں سے کھیل رہی تھی۔ مہکتی ہوئی ہوا کے جھونکوں سے سرشار ہو رہی تھی۔ چڑیلوں کے چہرے سن رہی تھی۔ وہ ایک عورت تھی جسے محبت تنکوں کا سہارا لینا اور امید دریا کے کنارے مٹی کے گھر وندے بنانا سکھاتی ہے لیکن ایک خیال بادِ سموم کے تیز جھونکے کی طرح آیا اور مایا کے دامن امید میں مہکتے ہوئے پھول مڑھا گئے۔ تصور کی نگاہیں عرب کے ریگ زاروں اور نخلستانوں میں گھومنے کے بعد بہمن آباد کے چوراہے میں اپنے بھائی کو پھانسی کے تختے پر لٹکا ہوا دیکھنے لگیں۔ وہ ایک بہن تھی ایسی بہن جو اپنے گھر میں مسرت کے قفقے سُننے کے باوجود بھائی کی ایک ہلکی سی آہ پر چونک اُٹھتی ہے۔ مایا نے اپنے دل میں کہا۔ ”بھیا! میرے بھیا! خدا تمہیں واپس لائے۔ تمہارے بغیر مجھے کسی کی مسکراہٹ خوش نہیں کر سکتی!“

ناہید نے اس کی طرف ٹٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ ”مایا! تمہیں واقعی خالد سے اس قدر محبت ہے“

مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور دوپٹے میں اپنا چہرہ چھپا کر پچکیاں لینے لگی۔

ناہید نے پھر کہا۔ ”مایا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں آتا۔ میں خالد کو جانتی ہوں۔ وہ....“

مایا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ”نہیں نہیں!! میں اپنے بھائی کے متعلق سوچ رہی ہوں“

کے بھر بیکراں میں ٹوٹی ہوئی کشتی کے اس ملاح سے مختلف نہ تھی جو اٹھتی ہوئی لہر کو ساحل سمجھنے کا دھوکا کھا چکا ہو۔ وہ محسوس کر رہی تھی کہ تقدیر آخری بار امید کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھین رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑا بھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوا۔ سوار نے قریب پہنچ کر باگیں کھینچ لیں اور گھوڑے سے کود کر مایا کی طرف بڑھا۔ مایا "بھیا! میرا بھتیجا!" کتنی ہوئی بھاگ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ناہید اور خالد کی نگاہیں بھاڑیوں کی طرف اٹھیں۔ بے رام کو دیکھ کر ناہید زبیر کے متعلق پھر ایک بار امیدوں کے چراغ روشن کر رہی تھی۔ بے رام کے بعد داسو اور اس کے پیچھے گنگو اور زبیر بھاڑیوں کے عقب سے نمودار ہوئے۔ زبیر کو دیکھ کر ناہید بھجکتی ہوئی دو تین قدم آگے بڑھی۔ زبیر اس کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ خالد بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ ناہید نے جاہا کہ بھاگ کر اپنے کمرے میں پہنچ جائے لیکن اس نے محسوس کیا کہ اس کے پاؤں زمین میں پیوست ہو چکے ہیں۔ اس کے اعضاء زمین رخشہ تھا۔ اس کا سر چمک رہا تھا۔ مہینوں کے تھکے ہوئے مسافر کی طرح منزل کو اچانک اپنے قریب دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ زبیر خالد سے علیحدہ ہو کر آگے بڑھا اور بولا۔ "ناہید زبیر تم اچھی ہونا!"

وہ جواب دینے کی بجائے اپنے چہرے کا نقاب درست کرنے لگی۔ زبیر نے پھر کہا۔ "ناہید! تمہارا زخم کیسا ہے؟" ناہید کے ہونٹ کپکپاتے، اس نے لڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ "خدا کا شکر ہے کہ آپ آگے۔ میں ٹھیک ہوں۔" اس کے آخری الفاظ ایک گہری سانس میں ڈوب کر رہ گئے اور وہ لڑکھڑاکر زمین پر گر پڑی۔

تم بہادر ہو لیکن ایسے موقع پر صبر سے کام لینا ہی بہادری ہے۔" خالد نے جواب دیا۔ "آپا! تمہیں بخا رہے۔ تم جا کر آرام کرو۔ میں صرف ان کی راہ دیکھنے جا رہا ہوں۔ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں دور نہیں جاؤں گا۔" مایا نے کہا۔ "نہیں نہیں!! بہن! انہیں مت جانے دو۔ یہ واپس نہیں آئیں گے۔"

خالد نے کہا۔ "مایا! ممکن ہے کہ راجہ کے سپاہی ان کا تعاقب کر رہے ہوں۔ ان کی مدد میرا فرض ہے۔ تم اپنے بھائی کا خیال کرو!" مایا نے جواب دیا۔ "میرا بھائی اگر خطرے میں ہے تو آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔"

خالد کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن دور سے ایک شخص جو درخت پر چڑھ کر پہرہ دے رہا تھا چلا یا۔ "وہ آ رہے ہیں۔" اور مٹا جنگل میں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ایک اور پہرے دار بھاگتا ہوا آیا اور بولا۔ "شاید دشمن ان کا پیچھا کر رہے ہوں۔ تم قلعے کے تہ خانے میں چھپ جاؤ۔"

خالد نے اطمینان سے جواب دیا۔ "چھپنے کی ضرورت نہیں۔ اگر سپاہی ان کے تعاقب میں ہوتے تو وہ اس طرف نہ آتے۔ لیکن یہ تو بہت تھوڑے گھوڑے معلوم ہوتے ہیں۔ خدا خیر کرے۔"

گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی اور خالد نے دوسری بار چونک کر کہا۔ "معلوم ہوتا ہے کہ صرف چار گھوڑے واپس آئے ہیں۔"

گھوڑوں کی آمد کی خبر پا کر ناہید نے اپنے دل میں ایک زبردست ٹھکر محسوس کی اور جب خالد نے یہ کہا کہ صرف چار گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے تو امید کے چراغ روشن ہو کر اچانک بجھ گئے۔ اس کی حالت غم داندوہ

خط آپ کو مل گیا ہوگا۔ آپ فوراً روانہ ہو جائیں۔ واپس آنے میں دیر نہ کریں۔ ہاں میں علی کا حال پوچھنا چاہتی ہوں۔“

”علی آپ کو بہت یاد کرتا ہے۔ دیبل کے گورنر نے اُسے بہت اذیت دی، لیکن وہ ایک بہادر لڑکا ہے۔ وہ خواہ کسی حالت میں ہو۔ نماز کے وقت اذان ضرور دیتا ہے۔ یہ لوگ اذان سے بہت گھبراتے ہیں۔ اسے بارہا کورٹوں کی سزا دی جا چکی ہے لیکن اس کے استقلال میں کوئی فرق نہیں آیا۔ برہمن آباد کے قید خانے میں بھی اس کا یہی حال ہے۔ راجہ کے سپاہی اسے زبان کاٹ ڈالنے کی دھمکی دے چکے ہیں لیکن اس کا ارادہ متزلزل نہیں ہوا۔“

ناہید نے کہا۔ ”یہ آپ کی صحبت کا اثر ہے۔ ورنہ وہ اتنے مضبوط دل کا مالک نہ تھا۔ سرانڈیپ میں اسے ایک کمزور لڑکا سمجھا جاتا تھا۔“

زیر نے جواب دیا۔ ”انسان کے عیوب و محاسن صرف خطرے کے وقت ظاہر ہوتے ہیں۔“

دردانے پر سے گنگوٹے آواز دی۔ ”اب دوپہر ہونے والی ہے۔ آپ کو دیر نہیں کرنی چاہیے۔“

ناہید نے کہا۔ ”آپ جائیں! خدا آپ کی مدد کرے لیکن آپ کو مکران تک خشکی کا راستہ معلوم ہے؟“

زیر نے جواب دیا۔ ”داسو میرے ساتھ جا رہا ہے اور وہ تمام راستوں سے واقف ہے۔ میں مکران کی سرحد پر پہنچ کر اُسے واپس بھیج دوں گا!“

مایا نے کہا۔ ”لیکن اس لباس میں آپ فوراً پہچانے جائیں گے۔“

زیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ”میری ننھی بہن کو میرا بہت خیال ہے لیکن اُسے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک سندھی کا لباس پہن کر جاؤں گا۔“

(۴)

جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی خالد اور مایا کے منگوم چہرے دیکھنے کے بعد اس کی نگاہیں زیر پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ مڑھاتے ہوئے چہرے پر اچانک حیا کی سرخی چھا گئی اور وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ گنگو اور بے رام دروازے سے باہر کھڑے تھے۔ خالد نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ”ناہید کو ہوش آ گیا ہے۔ آپ فکر نہ کریں۔“ زیر نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ”ناہید! اب ہماری مصیبت ختم ہونے والی ہے، میں آج ہی جا رہا ہوں!“

مایا ایک عورت کی دکاوت حس سے زیر کے متعلق ناہید کے جذبات کا اندازہ لگا چکی تھی۔ اس نے جلدی سے کہا۔ ”نہیں آپ یہیں ٹھہریں۔ اس وقت سارے سندھ میں آپ کی تلاش ہو رہی ہوگی۔“

زیر نے جواب دیا۔ ”میرے لیے سندھ کی سرحد پار کرنے کا یہی ایک موقع ہے۔ کل تک تمام راستوں کی چوکیوں کو ہمارے فرار ہونے کی اطلاع مل جائے گی۔ ہمارے باقی ساتھی راجہ کے سپاہیوں کو چکیم دینے کے لیے مشرق کے صحرا کا رخ کر رہے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ خالد تم ہمیں رہو گے۔ اگر اس جگہ کوئی خطرہ پیش آیا تو گنگو تمہیں کسی محفوظ مقام پر لے جائے گا۔ عرب سے ہماری افواج کی آمد تک اگر ناہید گھوڑے پر چڑھنے کے قابل ہو گئی تو گنگو تمہیں مکران پہنچا دے گا!“

ناہید نے کہا۔ ”جب تک میری بہنیں قید میں ہیں۔ میں یہیں رہنا پسند کروں گی۔ خدا آپ کو جلد واپس لائے! ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ میرا



تھارے بھائی کا نام ناصر الدین رکھتا ہوں!

”اور میرا نام؟“

خالد نے زہیر گنگو اور جے رام حیران زدہ کر مایا کی طرف دیکھنے لگے۔ مایا نے اپنے سوال کا کوئی جواب نہ پا کر کہا: ”تم حیران کیوں ہو۔ ناہید سے پوچھو۔ وہ یہ کہہ کر ہلیر میں کھڑی ہو گئی اور ناہید کو مخاطب کرتے ہوئے بولی: ”ناہید بہن! انھیں بتاؤ! کیا میں نے تمھارے سامنے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا میں نے چھپ چھپ کر تمھارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھیں؟ کیا میں نے قرآن کی آیات یاد نہیں کیں۔“

مایا پھر اپنے بھائی کے پاس آکھڑی ہوئی اور زہیر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی: ”آپ کس سوچ میں پڑ گئے۔ ناہید میرا نام زہرا رکھ چکی ہے اور مجھے یہ نام پسند ہے۔“

خالد نے اندر آ کر ناہید کے کان میں آہستہ سے کہا: ”تم نے یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟“

ناہید نے مسکرا کر جواب دیا: ”مایا کو اس بات کا ڈر تھا کہ آپ یہ خیال کریں گے کہ وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے مسلمان ہوئی ہے۔ اسے اپنے بھائی کا خوف بھی تھا۔ اس لیے وہ مجھ سے وعدہ لے چکی تھی کہ میں فی الحال اس کا راز اپنے تک محدود رکھوں۔“ خالد پھر بھاگتا ہوا جے رام کے قریب آکھڑا ہوا۔ اسکی رنج مسرت کے ساتوں آسمان پر تھی۔

زہیر نے کہا: ”بھائی ناصر الدین! بہن زہرا! میں تم دونوں کو مبارک باد دیتا ہوں۔ خدا تمہیں استقامت بخشے۔“

گنگو نے کہا: ”زہیر! اگر ہمارا دل ٹٹول کر دیکھو تو ہم سب مسلمان ہیں لیکن سب کے لیے نام سوچتے ہوئے تمہیں بہت دیر لگ جائے گی۔ یہ خدمت خالد

ہوں۔ اور اب تو میں سندھ کی زبان بھی سیکھ چکا ہوں۔ کوئی مجھ پر شک نہیں کئے گا!“

مایا نے کہا: ”آپ مجھے بہن کہہ کر بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے ملک میں دھرم کے بہن بھائیوں کا رشتہ سے کہہ بہن بھائیوں کے رشتے سے کم مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کہتے ہیں تو بہنوں کا سفر دنوں میں طے کیجیے۔ ہماری مصیبت آپ کے ساتھیوں کی مصیبت سے کم نہیں۔ وہ میرے بھائی کی تلاش میں سندھ کا کونہ کونہ پھان ماریں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کی افواج کے آنے سے مایوس ہو کر کہیں میرا بھائی کا ٹھکانا کی طرف فرار ہونے پر آمادہ نہ ہو جائے؟“

جے رام نے باہر سے بلند آواز میں کہا: ”مایا کیا کہتی ہو۔ میں ایک راجپوت ہوں۔ نہیں، بلکہ ایک مسلمان بھی ہوں۔ میں اپنے محسنوں کو چھوڑ کر کہاں جاسکتا ہوں۔“

”مسلمان؟ میرا بھائی ایک مسلمان؟“ مایا یہ کہتی ہوئی ناہید کی چارپائی سے اٹھ کر بھاگی اور باہر نکل کر جے رام سے لپٹ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ”بھیا! سچ کہو تم مسلمان ہو گئے؟“ اس نے جواب دیا: ”مایا! پاراس کے ساتھ مس ہو کر لوہا، لوہا نہیں رہ سکتا۔ تم روٹھ تو نہ جاؤ گی؟“

”میں۔۔۔؟“ اس نے الگ ہو کر آنسو پونچھتے ہوئے کہا: ”میں کیسے روٹھ سکتی ہوں۔ خدا نے میری دعائیں سن لیں۔ میری منتیں قبول کر لیں بھیا مبارک ہو لیکن تمھارا اسلامی نام؟“

زہیر نے باہر نکلتے ہوئے کہا: ”یہ میری کوتاہی ہے۔ اگر تم پسند کر دو تو

تمہاری مدد کرے۔ خدا تمہیں دشمنوں سے بچائے۔“  
 زہرا کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اور وہ بولی: ”آپا! تم اب تک مجھ سے  
 ایک بات چھپاتی رہی ہو تمہیں ان سے محبت ہے؟“  
 ناہید نے کوئی جواب دیے بغیر زہرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ گھوڑوں  
 کی ٹاپوں کی آواز آہستہ آہستہ ناہید کے کانوں سے دُور ہو رہی تھی۔ آنسوؤں  
 کے موتی اس کی آنکھوں سے پھلک کر رخساروں پر بہ رہے تھے۔  
 زہرا نے اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا: ”بہن وہ جلد  
 آئیں گے۔ وہ ضرور آئیں گے۔“

کے سپرد کر دو۔ اب دوپہر ہو رہی ہے۔ تمہیں شام تک کم از کم یہاں سے تیس گوس  
 نکل جانا چاہیے۔“  
 زہیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا: ”میں تیار ہوں۔“  
 گنگو نے داسو کو آواز دے کر کپڑے لانے کے لیے کہا: ”زہرا پھر ناہید کے  
 پاس آ بیٹھی اور زہیر نے گنگو کی ہدایت کے مطابق ایک سندھی سپاہی کا لباس زیب تن  
 کیا۔ گنگو نے کہا: ”آپ کے لیے گھوڑے تیار کھڑے ہیں۔“  
 ”میں ابھی آتا ہوں۔“ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ناہید کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ  
 اس کے پاؤں کی آہٹ سن کر اپنے چہرے پر نقاب ڈال چکی تھی۔  
 زہیر نے کہا: ”ناہید! خدا حافظ۔ بہن زہرا! میرے لیے دعا کرنا۔“  
 دونوں نے جواب میں خدا حافظ کہا اور زہیر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا کمرے  
 سے باہر نکل آیا۔

خالد، ناصر الدین اور گنگو نے قلعے کے دروازے تک اس کا ساتھ دیا۔  
 داسو دروازے پر دو گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ زہیر خدا حافظ کہہ کر گھوڑے پر  
 سوار ہو گیا۔ داسو نے اس کی تقلید کی۔ گنگو نے کہا: ”دھوپ تیز ہے لیکن یہ دونوں  
 گھوڑے تازہ دم ہیں۔ تیس گوس کی پہلی منزل ان کے لیے بڑی بات نہیں۔ داسو!  
 اس ہم میں تمہاری کامیابی شاید چند جینوں میں سندھ کا نقشہ بدل دے جب  
 تک زہیر مکران کی سرحد عبور نہ کئے واپس نہ آنا۔“  
 ”آپ بے فکر نہیں؟“ یہ کہہ کر داسو نے گھوڑے کو اڑ لگا دی۔ زہیر نے اپنا  
 گھوڑا اس کے پیچھے چھوڑ دیا۔

قلعے کے اندر گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن کر زہرا نے ناہید کی طرف دیکھا  
 ناہید کی آنکھوں میں آنسو پھلک رہے تھے اور وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی: ”خدا

**Get more e-books from [www.ketabton.com](http://www.ketabton.com)  
Ketabton.com: The Digital Library**